



هِدَايَةُ الْعَرَبِيَّةِ

(الْجُزْءُ الثَّانِي)

لِلصَّفِيفِ الثَّانِي عَشَرَ



بھارت کا آئین

حصہ 4 الف

بنیادی فرائض

حصہ 51 الف

بنیادی فرائض - بھارت کے ہر شہری کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ...

- (الف) آئین پر کار بند رہے اور اس کے نصب اعین اور اداروں، قومی پرچم اور قومی ترانے کا احترام کرے۔
- (ب) ان اعلیٰ نصب اعین کو عزیز رکھے اور ان کی تقسیم کرے جو آزادی کی تحریک میں قوم کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔
- (ج) بھارت کے اقتدار اعلیٰ، اتحاد اور سالمیت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کر کے ان کا تحفظ کرے۔
- (د) ملک کی حفاظت کرے اور جب ضرورت پڑے قومی خدمت انجام دے۔
- (ه) مذہبی، لسانی اور علاقائی و طبقاتی تفرقات سے قطع نظر بھارت کے عوام انسان کے مابین یک جہتی اور عام بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دے نیز ایسی حرکات سے باز رہے جن سے خواتین کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہو۔
- (و) ملک کی ملی جلی ثقافت کی قدر کرے اور اُسے برقرار رکھے۔
- (ز) قدرتی ماحول کو جس میں جنگلات، جھیلیں، دریا اور جنگلی جانور شامل ہیں محفوظ رکھے اور بہتر بنائے اور جانداروں کے تیئی محبت و شفقت کا جذبہ رکھے۔
- (ح) دانشورانہ رویے سے کام لے کر انسان دوستی اور تحقیقی و اصلاحی شعور کو فروغ دے۔
- (ط) قومی جائداد کا تحفظ کرے اور تشدد سے گریز کرے۔
- (ی) تمام افرادی اور اجتماعی شعبوں کی بہتر کار کردگی کے لیے کوشش رہے تاکہ قوم متواتر ترقی و کامیابی کی منازل طے کرنے میں سرگرم میں عمل رہے۔
- (ک) اگر ماں باپ یا ولی ہے، چھے سال سے چودہ سال تک کی عمر کے اپنے بچے یا وارث، جیسی بھی صورت ہو، کے لیے تعلیم کے موقع فراہم کرے۔

سرکاری فصلہ نمبر: ابھیاس-۲۱۶/۳۳/۱۶) (پر نمبر ۲۵ اپریل ۲۰۲۱ء کے مطابق قائم کردہ رابطہ کارکمیٹی کی
رجوی ۲۰۲۰ء کو منعقدہ نشست میں اس کتاب کو تعلیمی سال ۲۰۲۰-۲۱ء سے درسی کتاب کے طور پر منظوری دی گئی۔

هِدَاءُ الْعَرَبِيَّةِ

(الْجُزُءُ الثَّانِي)

Hidayat-ul-Arabiyyah

(Part - II)

لِصَفِّ الثَّانِي عَشَرَ

Std. XII



مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پرنسپل زمٹی و ابھیاس کرم سنہودھن منڈل، پونہ



XZN6H7

اپنے اسمارٹ فون میں انسال کردہ Diksha App کے توسط سے
سامنے دیے ہوئے Q.R. code کے ذریعے درس و تدریس کے
مواد کے لیے مفید سمعی و بصری وسائل دستیاب ہوں گے۔

© مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پستک نرمی و ابھیاس کرم سنشوڈن منڈل، پونہ - ३१००२

نئے نصاب کے مطابق مجلس ادارت نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کے جملہ حقوق مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پستک نرمی و ابھیاس کرم سنشوڈن منڈل، پونہ کے حق میں محفوظ ہیں۔ کتاب کا کوئی بھی حصہ مذکورہ منڈل کے ڈائرکٹر کی خیری اجازت کے بغیر شائع نہ کیا جائے۔

الطبعة الأولى :

(2020ء ۲۰۲۰)

الطبعة المكررة :

(2021ء ۲۰۲۱)

Editorial Board:

- Mr. Nomani Naeemuzzafar Mohd. Haneef Milli
- Mr. Shameem Abdul Hakeem Fauzi Madani
- Mr. Shahid Siddique Khot
- Hafiz Arif Mohd. Rafique Shaikh Ashrafi
- Mr. Asif Nisar Sayyed
- Mr. Mohd. Sadique Nadvi Bagban
- Mr. Mohd. Muntazimul Islam Nadwi
- Mr. Matiullah Ataullah
- Mr. Khan Navedul Haque Inamul Haque
(Special Officer for Urdu, Arabic & Persian,
Balbharati)

الأستاذ نعماني نعيم الظفر محمد حنيف الملّى

الأستاذ شميم عبد الحكيم فوزي المدنى

الأستاذ شاهد صديق كهور

الأستاذ الحافظ عارف محمد رفيق شيخ الأشرفى

الأستاذ آصف نثار سيد

الأستاذ محمد صادق الندوى باغبان

الأستاذ محمد منتظم الإسلام الندوى

الأستاذ مطیع اللہ عطاء اللہ

خان نوبید الحق انعام الحق

(المشرف الخاص للأردية والعربية والفارسية،
بالبهارتى)

Coordinator : Khan Navedul Haque Inamul Haque
Special Officer for Urdu, Arabic & Persian, Balbharati

Cover : Sayyed Asif Nisar

D.T.P. & Layout : Yusra Graphics
305 - Somwar Peth, Pune - 11.

Production : Shri Sachchitanand Aphale (Chief Production Officer)
Shri Rajendra Chindarkar (Production Officer)
Shri Rajendra Pandloskar (Asstt. Production Officer)

Paper : 70 GSM Creamwove

Print Order :

Printer :

Publisher : **Shri Vivek Uttam Gosavi**
Controller,
M.S. Bureau of Textbook Production,
Prabhadevi, Dadar, Mumbai - 400 025.

دُسْتُورُ الْهِنْدِ

الْتَّمَهِيدُ الْأَسَاسِيُّ

نَحْنُ شَعْبُ الْهِنْدِ نَعْزِمُ رَسْمِيًّا أَنْ نُكَوِّنَ الْهِنْدَ جُمْهُورِيَّةً
ذَاتَ سِيَادَةٍ اِشْتِرَاكِيَّةٍ عَلَمَانِيَّةٍ دِيمُقْرَاطِيَّةٍ وَ نَصْمَنَ إِلَى
جَمِيعِ مُواطِنِيهَا :

الْعَدَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَّةُ وَ الْإِقْتِصَادِيَّةُ وَ السِّيَاسِيَّةُ،
وَ حُرْيَّةُ الْفِكْرِ وَ التَّعْبِيرِ وَ الْإِعْتِقادِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْعِبَادَةِ.
وَ تَكَافُؤُ الْمَكَانَةِ وَ الْفُرْصَةِ وَ نُرُوجُ بَيْنَ جَمِيعِهِمِ الْأُخْرَةِ
الَّتِي تُؤَكِّدُ كَرَامَةَ الْفَرْدِ وَ اِتْهَادَ الْوَطَنِ وَ وَحدَتَهُ.

فِي مَجْلِسِنَا التَّشْرِيعِيِّ الْيَوْمِ السَّادِسِ وَ الْعِشْرِينِ مِنْ
نُوْفَمْبَر ١٩٣٩ م. نَحْنُ بِهَذَا نَتَحْذُ وَ نُطَقُ وَ نَنْقِدُ لِأَنْفُسِنَا
هَذَا الدُّسْتُورَ.

راشتہ گپت

جن گن من - ادھ نایک جیئے ہے
بھارت - بھالیہ و دھاتا۔

پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا،
در اوڑ، اُتلک، بنگ،

وِندھیہ، ہماچل، یمنا، گنگا،
اُچھل جل دھ ترنگ،

تو شہنامے جاگے، تو شہ آشیں مانے،
گاہے تو جیئے گا تھا،

جن گن منگل دایک جیئے ہے،
بھارت - بھالیہ و دھاتا۔

جیئے ہے، جیئے ہے، جیئے ہے،
جیئے جیئے جیئے، جیئے ہے۔

الْعَهْد

الْهِنْدُ هِيَ وَطَنِيٌّ - جَمِيعُ مُواطِنِي الْهِنْدِ إِخْوَاتِيُّ وَ أَخَوَاتِيُّ -
أَنَا أُحِبُّ وَطَنِي حُبًا جَمَّا وَ أَنَا أَفْتَخِرُ بِتَرَاثِهِ الْعَظِيمِ وَ الْمُتَّوِّعِ -
فَسُوفَ أُحَاوِلُ دَائِمًا أَنْ أَكُونَ صَالِحًا لِهَذَا التِّرَاثِ -

وَ سَاحْتَرِمُ وَالْدَّىيَّ وَ أَسَاتِذَتِيُّ وَ مَنْ هُمْ أَكْبَرُ مِنِّي -
وَ أَيْضًا أَعَامِلُ كُلَّا مِنَ النَّاسِ بِإِسْلَوْبٍ حَسَنٍ -
إِنِّي أُقْسِمُ أَنْ أَهَبَ نَفْسِي لِوَطَنِي الْعَزِيزِ وَ لِجَمِيعِ إِخْوَانِي -
فَإِنَّ سَعَادَتِي تَوَقَّفُ عَلَى تَقْدِيمِهِمْ وَ ازْدِهَارِهِمْ -

Preface

In the light of National Education Policy 2005, NCERT made its revision of the school syllabus. During this period, new educational syllabus has been prepared in 2012 in the State of Maharashtra. This syllabus was implemented gradually from 2013-14.

The textbook of Arabic language "Hidayatul Arabiyyah - Standard XII " was compiled in accordance with the syllabus approved by the State Government. Accordingly students may learn as a part of second and optional language and it gives us pleasure to present such a textbook.

The compilers of this book, while preparing this textbook have borne in mind those principles that learning and teaching process should be child centered. It should also add to student's self learning skill and expected skills be developed in students until they complete their higher secondary education. Besides, the process of learning and teaching be pleasant for students. In order to facilitate self learning, exercises and activities have been provided at the end of each lesson. Different types of activities have been included in the exercises in order to know students' understanding of the lesson and its evaluation.

The principle observed while selecting lessons, is that the text should be relevant to the present world and it may have the glimpses of the skills and abilities leading to spend a better life. It has also been observed in this textbook that along efforts for creating skill for comprehending language, emphasis has been laid on developing aptitude for inquisitiveness, ability of expression and using chaste language in conversation and writing.

The draft copy of this textbook was presented before eminent teachers of higher secondary schools, expert educationalists and linguists of different regions of Maharashtra in order to make it as much flawless as possible and bring it to a standard level. Thereafter final copy has been prepared by making necessary modifications in the draft copy in the light of precious suggestions and opinions that were received with appreciation.

The Editorial Committee has prepared its draft with utmost efforts and devotion. Along with Editorial Committee, artists, expert educationists and reviewers have contributed with sincerity and dedication to the completion and beautification of the textbook. The Board expresses its sincere thanks to all of them. The students, teachers, parents and guardians are expected to welcome this book whole-heartedly.



(Vivek Gosavi)

Director

Maharashtra State Bureau of Textbook
Production and Curriculum Research, Pune

Pune

Date: 21-02-2020

Indian Solar year: 2 Phalgun, 1941

المُقَدَّمَةُ

يسهّل ضوء الخطة التعليمية الوطنية لـ ٢٠٠٥ م ويفسح مجالاً لـ إن سى إى آر تى أن تنفتح المقررات التعليمية للمدارس وتهيئها أن تعاصر الزّمن ففي غضون هذه المدة في ٢٠١٢ م قد هُيأت المقررات التعليمية في ولاية مهاراشترا وبالتالي تُنفذت من ٢٠١٣ - ٢٠١٤ م مطابقاً للمقررات التعليمية المستحسنة من قبل ولاية مهاراشترا رُتب الكتاب الدراسي للغة العربية "هدایة العربیة" للصف الثاني عشر، وهذا يسرّنا أن نقدم هذا الكتاب الدراسي العربي كلغة ثانية و اختيارية لطلاب الصف الثاني عشر فيمكن الطلاب أن يتعلّمواها بسهولة.

فمؤلفو هذا الكتاب حين إعداد هذا الكتاب الدراسي قد تذكروا تلك القواعد والمبادئ أن عملية التعلم والتعليم ينبغي أن تدور مركزاً حول محور الطلاب وينبغي أن تزيد مهارة الطلاب للتّعلم بأنفسهم ويكون أن تتحسن البراعات المتوقعة فيهم إلى نهاية تكميل دراساتهم العليا الثانوية وما عداها ينبغي أن تكون عملية التعلم والتعليم سارة وهذه العملية ستُسهل التعلم بالنفس.

وقد غُيّي بالتزويد بالتمارين والشّاطرات في نهاية كل درس من دروس الكتاب وتحتوي التمارين على الأسئلة ذات الطراز المتنوع لكي تسبّب تحسين براعة الإدراك وفحص تفهم الدروس وقدر مهارات الطلاب.

وقد وليت العناية بهذا الأمر أن عند انتقاء النخب لهذا الكتاب الدراسي متذكراً أن المتنون تناسب الحياة المعاصرة ويمكن أن المتنون تقوم بإيضاح اللمحات للبراعات والمهارات لقضاء الحياة في أحسن صورة وما عدا تحسين المهارات لإدراك اللغة والتّنقضي التعليمي. والبيان هناك أهمية التأكيد على استخدام اللغة الفصحي للمحادثة وال الحوار والكتابة. وقد انتبهت إلى تقديم الكتاب الدراسي إلى الأساتذة البارعين من المدارس الثانوية العليا وخبراء التعليم واللغويين الماهرين من المناطق المختلفة من ولاية مهاراشترا لكي يكون الكتاب الدراسي خالياً من الأخطاء الصرفية والنحوية بقدر ما يمكن، وأن يكون حسب المستوى المعياري. وقد هُيأت النسخة النهائية بعد التعديلات الضروريّة في المسودة في ضوء الاقتراحات والأراء الشّمينة التي قد أُسلِّمَتْ تقديراً لها.

قد هُيأت لجنة التّأليف المسودة بكل جهود وتكريس و ما عدا بذلك لجنة التّأليف مجهوداتها في تكميل هذا الكتاب الدراسي وتحسينه. قد أسهموا المصوّر وخبراء التعليم والمُبصرون وأصحاب الفحص جهداً جهيداً بالخلوص والتكريس، فاللجنة تعبر عن الشّكر والامتنان بالإخلاص إليهم جميعاً وهذا يتوجّع من الطلاب وأبوיהם وأساتذة و المربيّين أن يرجّبوا بهذا الكتاب الدراسي بكل حماسة و حرارة.



وويك گوساوی
مدير

مهاراشتر راجيه پالهیه پستک نرمتي و
ابھیاس کرم سنشو دهن منڈل، پونه - २

پونه

التاريخ : ٢١ فبراير ٢٠٢٠ م.

التاريخ الشمسي للهند: ٢ پهالگن ١٩٤١

البَرَاعَاتُ الْمُتَوَقَّعَةُ (متوقع صلاحيتیں)

یہ توقع کی جاتی ہے کہ بارہویں جماعت کے تعلیمی سال کے آخر تک طلباء میں زبان دوم کی درج ذیل صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہو۔

لکھنا

- ۱۔ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کرتا ہے۔ سبق سے پوچھے ہوئے الفاظ تلاش کر کے لکھتا ہے۔
- ۲۔ پوچھے ہوئے درسی سوالوں کے جواب لکھتا ہے۔
- ۳۔ معنے حل کرتا ہے۔ الفاظ کی ضدیں اور مترادفات تلاش کر کے لکھتا ہے۔
- ۴۔ دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے لکھتا ہے۔
- ۵۔ روزمرہ زندگی میں مستعمل عربی کے آسان جملے لکھتا ہے۔
- ۶۔ دیے ہوئے عنوان پر اپنی زبان میں مضمون لکھتا ہے۔
- ۷۔ کسی عنوان پر کم از کم دس جملوں پر مشتمل عربی میں مضمون لکھتا ہے۔

سننا

- ۱۔ عربی الفاظ کے تلفظ اور ادا بینگی سے واقف ہوتا ہے۔ درسی متن کی عبارت کو سن کر الفاظ کو متن کے حوالے سے سمجھتا ہے۔
- ۲۔ عربی نثر کے اقتباس کو سن کر اس کا مفہوم سمجھتا ہے۔ عربی الفاظ اور فقروں کو سن کر ان کا مفہوم سمجھتا ہے۔
- ۳۔ مختلف اشیا کے عربی نام سن کر ان اشیا کو پہچانتا ہے۔
- ۴۔ عربی نظم کے آہنگ اور لے کو سن کر اس سے لطف انداز ہوتا ہے۔
- ۵۔ عربی نظم کو سن کر نظم کے پیغام کو سمجھتا ہے۔
- ۶۔ درسی اقتباس کو سننے اور سمجھنے کے بعد عربی کے غیر درسی آسان اقتباس کو سن کر ان کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔

بولنا

- ۱۔ حروف جار کا استعمال سمجھتا ہے۔
- ۲۔ ضمیر اور اس کی قسموں سے واقف ہوتا ہے۔
- ۳۔ مضاف اور مضاف الیہ، ثنی، جمع کی اقسام، اسم تفضیل کو پہچانتا ہے۔
- ۴۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی شناخت کرتا ہے۔
- ۵۔ فعل ماضی معروف سے فعل ماضی محبول اور فعل مضارع معروف سے فعل مضارع محبول بنانے کا طریقہ سمجھتا ہے۔
- ۶۔ ہزار سے بڑے ہندسوں کو پڑھتا ہے۔
- ۷۔ منائع و بدائع میں تشبیہ، استعارہ وغیرہ سے واقف ہوتا ہے۔

پڑھنا

- ۱۔ عربی موارد کو دیکھ کر پڑھتا ہے۔ عربی اقتباس کو نشر کے موزوں طرز میں پڑھتا ہے۔
- ۲۔ صحیح تلفظ اور اسلیے کا لاحاظ رکھتے ہوئے کسی عربی اقتباس کی بلند خوانی کرتا ہے۔ متن کا سرسری اور بغور مطالعہ کرتا ہے۔
- ۳۔ متن کو اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کا سیاق و سبق واضح ہو جائے۔
- ۴۔ عربی جملوں کو حرکات و اعراب کا لاحاظ کرتے ہوئے پڑھتا ہے۔
- ۵۔ عربی نثر و نظم کو قواعد کے مطابق پڑھتا ہے۔
- ۶۔ کسی ادھورے شعر کو مکمل کر کے پڑھتا ہے۔

ترجمہ

- ۱۔ پوچھے ہوئے فقروں کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہے۔
- ۲۔ دیے ہوئے جملوں کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہے۔
- ۳۔ دیے ہوئے مصری عوں / اشعار کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہے۔
- ۴۔ پوچھے ہوئے الفاظ کے معنی اردو میں لکھتا ہے۔
- ۵۔ اردو فقروں کا ترجمہ آسان عربی میں کرتا ہے۔

المحتويات

قسم القواعد

| | | |
|----|--------------------------------|----|
| ١٠ | المثنى | ١- |
| ١٥ | المضاف والمضاف إليه | ٢- |
| ٢٢ | الجملة المفيدة وغير المفيدة | ٣- |
| ٢٧ | المركب الناقص | ٤- |
| ٣٤ | المبتدأ والخبر | ٥- |
| ٤٠ | أقسام الجمع | ٦- |
| ٤٩ | إسم التفضيل | ٧- |
| ٦٣ | الجملة الإسمية والجملة الفعلية | ٨- |
| ٧١ | الفعل المعروف والفعل المجهول | ٩- |

قسم البلاغة

| | | |
|-----|--------------------|----|
| ١٠٢ | التشبيه | ١- |
| ١٠٣ | الاستعارة | ٢- |
| ١٠٤ | الضداث والمترادفات | * |



قسم النثر

| | | |
|----|-----------------------------------|-----|
| ١ | من القرآن الكريم | ١- |
| ٦ | من الأحاديث النبوية | ٢- |
| ١١ | الأقوال والأمثال | ٣- |
| ١٦ | رفيدة بنت سعد رضي الله عنها | ٤- |
| ٢٣ | الأب العاقل | ٥- |
| ٢٩ | مملكة التحل | ٦- |
| ٣٥ | فاطمة أرب | ٧- |
| ٤٣ | مناظرة بين مومباي و دلهي | ٨- |
| ٥٢ | رئيس الأحرار مولانا محمد علي جوهر | ٩- |
| ٥٩ | جامعة الأزهر | ١٠- |
| ٦٥ | فولا - عيد الشيران | ١١- |
| ٧٤ | مهمة شاندارayan | ١٢- |

قسم النظم

| | | |
|----|-----------------------|----|
| ٨١ | الحمد لله تعالى | ١- |
| ٨٥ | في مدح النبي الكريم ﷺ | ٢- |
| ٨٨ | القمر | ٣- |
| ٩٢ | العلم زين | ٤- |
| ٩٦ | الجدة | ٥- |
| ٩٨ | رفيعي الحميم | ٦- |

ابتدائية


قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں کائنات کے وہ تمام اسرار و رموز موجود ہیں جو سائنسی تحقیق کے نتیجے میں وقاً فوقاً ہمارے سامنے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔


یہ قرآن حکیم کا عظیم الشان مججزہ ہے کہ اس کے مضامین میں انسانی زندگی کا ہر پہلو اور کائنات کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جسے سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری الہامی کتاب اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ پیش نظر سبق میں اخلاق و کردار اور احکام و سائنس پر مشتمل قرآن مجید کی چند آیات دی ہوئی ہیں۔

- ۱- وَأَنِفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ ﴿۱۹۵﴾ (سورۃ البقرۃ)
- ۲- قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبُينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ (سورۃ البقرۃ: ۲۱۵) وَابْنِ السَّبِيلِ ط
- ۳- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○ (سورۃ البقرۃ: ۲۲۲)
- ۴- وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ○ (سورۃ آل عمران: ۱۲۰)
- ۵- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا لَا وَإِذَا حِسِيْتُمْ بِتَحْيَيَةٍ فَحَسِيْوَا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا ط (سورۃ النساء: ۵۸)
- ۶- وَعَلِمْتُمْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ○ (سورۃ النحل: ۱۶)
- ۷- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُونَ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ط (سورۃ النور: ۳۰)
- ۸- ذَلِكَ أَرْزَكِي لَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّلَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○ (سورۃ القصص: ۷۳)
- ۹- سَنُرِيْهِمْ أَيْتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط (سورۃ فصلت: ۵۳)
- ۱۰- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجْسِسُوا وَ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط (سورۃ الحجرات: ۱۲)
- ۱۱- أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَيْلِ كَيْفَ خُلِقُتْ ○ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ○ وَ إِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ○ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ○ (سورۃ الغاشیۃ: ۲۰ آتا)

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Spend | خرج كرنا | أَنْفَقَ يُنْفِقُ إِنْفَاقًا |
| Place, put | ڈالنا | الْقَى يُلْقِي إِلْقَاءً |
| Hands | ہاتھ (جمع) | الْأَيْدِي وَيَدُ الْتَّهْلُكَةُ |
| Danger | ہلاکت | أَفْرَيْنَ وَأَقْرَبُ |
| Relatives | رشته دار | يَتَامَى وَيَتِيمٌ |
| Orphans | يتيم (جمع) | مَسَاكِينُ وَمِسْكِينٌ |
| Poor | غريب (جمع) | أَحَبَ يُحِبُّ إِحْبَابًا |
| Like, love | پسند کرنا، چاہنا | تَوَابِينَ وَتَوَابُ |
| Repentants | توبہ کرنے والے | مُتَطَهِّرُونَ وَمُتَطَهِّرٌ |
| Seekers of absolution | پاکی حاصل کرنے والے | دَاوَلَ يُدَاوِلُ مُدَاؤَةً |
| Revolve | ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا | |
| Order | حکم دینا | أَمْرٌ يَأْمُرُ أَمْرًا |
| Pay | ادا کرنا | أَدْى يُؤَدِّي تَأْدِيَةً |
| Deposits | امانتیں | أَمَانَاتٌ وَأَمَانَةً |
| Owners, holders | مالک، والے | أَهْلٌ |
| Greet | سلام کرنا | حَيٌّ يُحَيِّي تَحِيَّةً |
| Better | زیادہ اچھا | أَحْسَنُ (اسمٌ تفضیل) |
| Reply | جواب دینا | رَدَ يَرُدُّ رَدًا |
| Symbols | نشانیاں | عَلَامَاتٌ وَعَلَامَةً |
| Star | ستارہ | نَجْمٌ جَنْجُومٌ |
| Be guided | ہدایت پانा، راہ پانा | إِهْتَدَى يَهْتَدِي إِهْتِدَاءً |
| Lower the gaze | نگاہ تنگی رکھنا | غَصَّ يَغْضُبُ غَصَّاً |
| Sight (Pl.) | نگاہیں | أَبْصَارٌ وَبَصَرٌ |
| Protect | حافظت کرنا | حَفِظَ يَحْفَظُ حِفْظًا |
| Private parts of body | شرمگاہ (جمع) | فُرُوجٌ وَفَرْجٌ |
| More pure | زیادہ پاک | أَزْكَى (اسمٌ تفضیل) |

| | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|
| Knower | خبر کھنے والا | خَبِيرٌ |
| Make | بنانا | صَنَعَ يَصْنَعُ صُنْعًا |
| Make | بنانا | جَعْلٌ يَجْعَلُ جَعْلًا |
| Night | رات | لَيْلٌ ج: لَيَالٍ |
| Day | دن | نَهَارٌ ج: نَهَرٌ |
| Live, reside | رہائش اختیار کرنا، رہنا | سَكَنْ يَسْكُنُ سَكَنًا |
| Seek, want | تلاش کرنا، چاہنا | ابْتَغَى يَبْتَغِي ابْتِغَاءً |
| Perhaps, maybe | شاید، تاکہ | لَعَلَّ |
| Thank | شکر ادا کرنا | شَكَرَ يَشْكُرُ شُكْرًا |
| Show | وکھانا | أَرَى يُرِي إِرَاءَةً |
| Signs | نشانیاں | آيَاتُ و: آيَةً |
| Horizons | آفاق، آسمان کے کنارے | آفَاقٌ و: أُفُقٌ |
| Souls | افراد، جان (جمع) | أَنْفُسُ و: نَفْسٌ |
| Appear | ظاہر ہونا | تَبَيَّنَ يَتَبَيَّنُ تَبَيِّنًا |
| Avoid | پچنا | إِجْتَنَبَ يَجْتَنِبُ إِجْتِنَابًا |
| Suspicion | گمان | ظَنٌّ ج: ظُنُونٌ |
| Sin | گناہ | إِثْمٌ ج: آثَامٌ |
| Spy | جاسوسی کرنا | تَجَسَّسَ يَتَجَسَّسُ تَجَسِّسًا |
| Backbite | غيبة کرنا | إِغْنَابَ يَغْنَابُ إِغْنَابًا |
| See | دیکھنا | نَظَرٌ يَنْظُرُ نَظَرًا |
| Camel | اوٹ | إِيلٌ |
| Be created | تخیق کیا جانا | خُلُقٌ يُخْلُقُ خَلْقًا |
| Sky | آسمان | سَمَاءٌ ج: سَمَاوَاتٌ |
| Be lifted | بلند کیا جانا | رُفَعَ يُرْفَعُ رَفْعًا |
| Mountains | پہاڑ (جمع) | جَبَالٌ و: جَبَلٌ |
| Be installed | نصب کیا جانا | نُصِبَ يُنْصَبُ نَصْبًا |
| Be levelled | ہموار کیا جانا | سُطْحَ يُسْطَحُ سَطْحًا |





Fill in the blanks.

١. إِمَّا الْفَرَاغُ فِيمَا يَأْتِي. درج ذيل خالي جملہ پر کیجیے۔

٢. وَلَا تُلْقُوا إِلَى التَّهْلِكَةِ.

٣. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.

٤. إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا

٥. إِنَّ بَعْضَ إِثْمٍ.

Match the following.

جوڑیاں لگائیے۔

٢. صِلِ الْعُمُودَيْنِ.

| الْعَمُودُ الثَّانِي | الْعَمُودُ الْأَوَّلُ |
|----------------------|---------------------------------------|
| مِنْ أَبْصَرِهِمْ | فُلْ مَا انْفَقْتُمْ |
| مِنَ الظَّنِّ | فُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا |
| مِنْ خَيْرٍ | جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ |
| لِتَسْكُنُوا فِيهِ | إِجْتَنَبُوا كَثِيرًا |

Complete the following webs.

درج ذيل خاکے مکمل کیجیے۔


٣. أَكْمِلِ الشَّبَكَاتِ التَّالِيَةَ.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

١.



٢.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

٣.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ

٢. اخْتَرِ الْحَرْفَ الْجَارَ الْمُنَاسِبَ مِنَ الْقُوَسِينَ.

قوسین سے صحیح حرف جا ن منتخب کیجیے۔

Choose proper preposition from the bracket.

(مِنْ ، بِ ، إِلَى ، فِي)

١. وَ لَا تُلْقُوا أَيْدِيهِمُ إِلَى التَّهْلِكَةِ.

٢. سُرِّيْهُمْ أَيَّاتِنَا الْأَفَاقِ.

٣. اجْتَبِيْوَا كَثِيرًا الظَّنِّ.

٤. أَفَلَا يَنْظُرُونَ الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.

٥. أَكُشِّبِ الْمُفَرَّدَاتِ لِلْجُمُوعِ التَّالِيَةِ.

درج ذیل جمع کے واحد لکھیے۔

يَتَامَى ، مَسَاكِينُ ، أَيَّامُ ، أَمَانَاتُ ، أَبْصَارُ ، فُرُوجُ ، آفَاقُ ، جِبَالٌ

٦. أَكُشِّبِ الْمُضَارِعِ لِلْأَفْعَالِ التَّالِيَةِ.

درج ذیل افعال کے مضارع لکھیے۔

أَحَبَّ ، دَأَوَّلَ ، أَمَرَ ، هَدَى ، غَضَّ ، إِبْتَغَى ، تَبَيَّنَ ، ظَنَّ

٧. أَكُشِّبِ مَقَالَةً عَرَبِيَّةً مُشَتَّمَلَةً عَلَى عَشْرِ جُمِلٍ عَلَى الْأَقْلَى حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ.

درج ذیل عنوان پر عربی میں کم از کم دو جملوں پر مشتمل مضون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ“

اضافی مطالعہ

قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے مثلاً قرآن، ذکر، کتاب، صحف، فرقان، تنزیل، کلام، برہان وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ماہ رمضان میں شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ قرآن حکیم میں کل ۱۱۳ سورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحۃ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ قرآن کریم کے نزول کی مدت ۵ روزاں ۲۲ ماہ اور ۱۴۰ دن ہے۔ نزول قرآن کے وقت وحی کے لکھنے والوں کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ کاتبین وحی کی ایک طویل فہرست ہے۔ سب سے پہلے کتابت وحی کی سعادت حضرت خالد بن سعید کے حصے میں آئی۔ کاتبین وحی میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبد اللہ بن سعد، حضرت زبیر بن العوام، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبد اللہ بن رواحہ، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان وغیرہ شامل ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں مرد حفاظ کرام کے ساتھ ساتھ جن خواتین نے قرآن حفظ کیا تھا ان میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ، اُمّ المؤمنین حضرت حفصة، اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ اور اُمّ ورقہ بن نوفل شامل ہیں۔

مِنَ الْأَحَادِيْثِ النَّبِيَّةِ

ابتدائية

شرعی اصطلاح میں حدیث نبوی سے مراد وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کے اقوال و اعمال محفوظ ہیں۔ یہ روایات ہمیں صحابہ کرامؓ کے ذریعے پہنچی ہیں۔ ابتدا میں یہ روایات زبانی ہوتی رہیں۔ بعد ازاں تحریری طور پر حدیث کو جمع کیا گیا۔ حدیث کے پچھے مجموعے زیادہ مستند سمجھے جاتے ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ پیش نظر سبق میں مختلف حکامات، نصیحتوں اور سائنسی حقائق پر مشتمل احادیث درج ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔

۱. أَلْبِرُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْإِلْثَمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَ كَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. (مسلم)
۲. أَلَا وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلْحَ الْجَسَدِ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدِ كُلُّهُ، أَلَا وَ هِيَ الْقُلُبُ. (متفق عليه)
۳. لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوْكِيلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَعْدُوْ خِمَاصًا وَ تَرُوْحُ بِطَانًا. (ترمذی)
۴. مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ الْغَرْسِ. (احمد)
۵. إِنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ! مَا حَقُّ الْوَالِدِينِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ : هُمَا جَنَاحُكَ وَ نَارُكَ. (ابن ماجہ)
۶. مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أَخَا لَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى، نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاكَ وَ تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً. (ترمذی)
۷. إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ الْطَّفْهُمْ بِأَهْلِهِ. (ترمذی)
۸. إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَ لَا إِلَى صُورِكُمْ وَ لِكُنْ يُنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ. (مسلم)
۹. إِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. (مسلم)
۱۰. الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشَّهِيدَاءِ. (ترمذی)
۱۱. سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا. قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)؟ قَالَ : أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ. (التّرغیب)
۱۲. كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى الْلِسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ : ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ.“ (بخاری)

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Good deed | نیکی | بِرٌّ |
| Good character | اچھے اخلاق | حُسْنُ الْخُلُقِ |
| Trouble | بے چین کرنا، پریشان کرنا | حَاكَ يَحُوْكُ حَوْكًا |
| Dislike | ناپسند کرنا | كَرِهٌ يَكْرَهُ كَرَاهَةً |
| Know | مطلع ہونا | إِطَّلَعَ يَطْلَعُ إِطْلَاعًا |
| Body | جسم | جَسَدٌ ج: أَجْسَادٌ |
| Embryo | گوشت کا توہڑا | مُضْغَةٌ ج: مُضَغٌ |
| Be good | درست ہونا | صَلَحَ يَصْلُحُ صَالَحًا |
| Spoil, rot | خراب ہونا | فَسَدَ يَفْسُدُ فَسَادًا |
| Heart | دل | قَلْبٌ ج: قُلُوبٌ |
| Trust, rely | بھروسا کرنا | تَوَكَّلَ يَتَوَكَّلُ تَوْكِلًا |
| Feed | رزق دینا | رَزَقَ يَرْزُقُ رِزْقًا |
| Go early morning | صح سویرے نکانا | غَدَا يَعْدُو غُدُوًا |
| Hungry, empty stomach | بھوکا، خالی پیٹ | خَمَاضٌ و: خَمِيْضٌ |
| Return in the evening | شام کو لوٹنا | رَاحَ يَرُوْحُ رَوْحًا |
| Satiated | شکم سیر، پیٹ بھرا | بَطَانٌ و: بَطِينٌ |
| Man | آدمی | رَجُلٌ ج: رِجَالٌ |
| Sow a plant | پودا لگانا | غَرَسَ يَغْرِسُ غَوْسًا |
| Plant | پودا | غَرْسٌ ج: أَغْرَاسٌ |
| Write | لکھنا | كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابَةً |
| Reward, requital | صلہ، ثواب | أَجْرٌ ج: أَجُورٌ |
| Get out | نکلنا | خَرَجَ يَخْرُجُ خُرُوجًا |

| | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Visit a patient | عيادةٌ كرنا | عَادَ يَعْوُدُ عِيَادَةً |
| Meet, visit | ملاقاتٌ كرنا، زيارةٌ كرنا | زَارَ يَزُورُ زِيَارَةً |
| Call loud | پکارنا | نَادَى يُنادِي مُنَادَاةً |
| Announcer (town crier) | پکارنے والا | مُنَادٍ |
| Feel good | احچاگلنا | طَابَ يَطِيبُ طِيبًا |
| Walking | چلنا | مَمْشِي (مصدر مبني) |
| Accustom | ٹھکانہ بانا | تَبَوَّأَ يَتَبَوَّأُ تَبَوُّأً |
| House | گھر | مَنْزِلٌ ج: مَنَازِلٌ |
| More complete | کامل تر | أَكْمَلُ (اسم تفضيل) |
| More kind-hearted | زيادہ مہربان | الْأَطْفُلُ (اسم تفضيل) |
| Faces | چہرے | صُورَةً و: صُورَةً |
| Avoid | پچنا | إِتَّقَى يَتَّقِيُّ إِتْقَاءً |
| Darkness (plural) | اندھیرے | ظُلْمَاتٌ و: ظُلْمَةً |
| Greed | لاچ | شُحٌ |
| Destroy | ہلاک کرنا، بر باد کرنا | أَهْلَكَ يُهْلِكُ إِهْلَاكًا |
| Truthful | سچا | الصَّدُوقُ |
| Honest | امانت دار | الْأَمِينُ |



١. إِمَالُ الْفَرَاغِ بِالْكَلِمَاتِ كَمَا وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ.

Fill in the blanks with words inscribed in Hadeeth. حدیث میں درج الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر تکیہ۔

١. أَلْبُرُ وَالْأَثْمُ مَا فِي نَفْسِكَ.
٢. لَوْ أَنَّكُمْ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ تَوَكِّلُهُ لَرَزْقُكُمْ.
٣. فَإِنَّ الظُّلْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٤. الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

٢. صِلِ الْعُمُودَيْنِ.


جوڑیاں لگائیے۔

Match the following.

| الْعُمُودُ الثَّانِي | الْعُمُودُ الْأَوَّلُ |
|----------------------|-----------------------|
| فِي الْمِيزَانِ | حَبِيبَتَانِ |
| إِلَى الرَّحْمَنِ | حَقِيقَتَانِ |
| عَلَى الْلِسَانِ | ثَقِيلَتَانِ |

٣. أَكْمِلِ الشَّبَكَاتِ التَّالِيَةَ.

Complete the following webs.



٤. اَكْتُبِ الْاَضْدَادَ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَةَ.

درج ذيل الفاظ کی ضد لکھیے۔

الْبِرُّ ، صَلْحٌ ، حَقٌّ ، خِمَاصٌ ، مَرَضٌ ، أَمِينٌ ، الصَّادِقُ ، حَقِيقَةٌ

٥. اَكْتُبِ الْفَعْلَ الْمَاضِي لِلْمُضَارِعِ التَّالِيِ.

درج ذيل مضارع سے فعل ماضی بنائیے۔

يَطَّلِعُ ، يَرْزُقُ ، يَغْرِسُ ، يَخْرُجُ ، يَنْظُرُ ، يُسَلِّمُ

٦. اَكْتُبِ الْمُفَرَّدَاتِ لِلْجُمُوعِ التَّالِيَةَ.

درج ذيل جمع کے واحد لکھیے۔

أَجْسَادٌ ، صُورٌ ، قُلُوبٌ ، ظُلْمَاتٌ ، الشُّهَدَاءُ ، أَعْمَالٌ

٧. اِحْفَظْ ثَلَاثَةً اَحَادِيثَ عَلَى الْاَقْلِ مِنْ هَذَا الدَّرْسِ.

Memorise atleast three hadeeth from the lesson.

سبق سے کم از کم تین احادیث یاد کیجیے۔

المُثَنِّي

وہ کلمہ جو دو پر دلالت کرتا ہے تثنیہ یا شیٰ کہلاتا ہے۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد لفظ کے آخر میں حالتِ رفع میں 'ان' لگاتے ہیں۔

مثال: لفظ - لفظان مَدِينَةٌ - مَدِينَاتٍ شُبَّاكٌ - شُبَّاكَاتٍ مُعْلِمَةٌ - مُعْلِمَاتٍ

اور حالتِ نصب اور حالتِ جر میں 'ین' لگاتے ہیں۔ مثال:

| | | | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------|
| حالاتِ نصب | فتح شُبَّاكِينْ | رأيُث مَدِينَاتِينْ | كتَبُث لفظِينْ |
|------------|-----------------|---------------------|----------------|

| | | | |
|-----------|-----------------|------------------|------------|
| حالاتِ جر | على شُبَّاكِينْ | في مَدِينَاتِينْ | في لفظِينْ |
|-----------|-----------------|------------------|------------|

تثنیہ پر تنوین نہیں آتی ہے۔

المُثَنِّي (Dual)

The word that indicates quantity of two is called تثنیہ or مُثَنِّي. Dual is formed by adding 'ان' to the singular in the nominative case. Eg.

لفظ - لفظان مَدِينَةٌ - مَدِينَاتٍ شُبَّاكٌ - شُبَّاكَاتٍ مُعْلِمَةٌ - مُعْلِمَاتٍ

And by adding 'ین' in the accusative and genitive cases. Eg.

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Accusative case | فتح شُبَّاكِينْ | رأيُث مَدِينَاتِينْ | كتَبُث لفظِينْ |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| Genitive case | على شُبَّاكِينْ | في مَدِينَاتِينْ | في لفظِينْ |
|---------------|-----------------|------------------|------------|

A word in the dual does not admit nunation (تنوین).

Questions

سوالات

الآسئلة

Complete the following activities.

درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔

★ اُكْمِلِ النَّشَاطَاتِ التَّالِيَةً.

۱۔ اُكْتُبْ تَعْرِيفَ المُثَنِّي مَعَ الْأُمْثلَةِ۔ شیٰ کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔

Define (dual) and illustrate with examples.

۲۔ اُكْتُبْ فَاعِدَةَ تَكْوِينِ الشَّتَّيَةِ۔ شیٰ بنانے کا قاعدہ لکھیے۔

Write the method of forming (dual). تثنیہ (dual).

اضافی معلومات

حدیثِ نبویؐ کے مطابعے اور اس کی اشاعت کے تعلق سے جو علم ترقی پایا وہ علم حدیث کہلاتا ہے اور اس علم میں مہارت رکھنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ علم حدیث کو علومِ اسلامیہ میں اعلیٰ درج حاصل ہے اور اس کی حدود بہت وسیع ہیں۔ احادیث کی کتابوں کے مطابعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؐ نے اپنے مخصوص صحیفوں اور دفاتر میں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جو احادیث قلم بند کی گئیں انھیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: (۱) وہ احادیث جو خود رسول اللہ ﷺ کے حکم سے لکھی گئیں۔ (۲) وہ احادیث جنھیں صحابہ کرامؐ نے مجلسِ نبوی میں سنائیں لکھ لیا۔ صحابہ کرامؐ میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہؓ کی ہیں جن کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر (۵۳۷۲) ہے اور صحابیاتؓ میں سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقۃؓ سے مروی ہیں جن کی تعداد دو ہزار دو سو دس (۲۲۱۰) ہے۔ علاوہ ازیں دیگر صحابہ و صحابیات سے بھی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ مروی ہے۔

الْأَقْوَالُ وَ الْأَمْثَالُ

ابتدائية

عربی کی ایک مشہور ضرب المثل ہے: "الْمَثَلُ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلْحُ فِي الطَّعَامِ۔" یعنی عام بول چال میں کہاوت کوہی اہمیت حاصل ہے جو کھانے میں نہ کو۔ اگر کھانے میں نہ کو تو وہ بے لطف معلوم ہو گا۔ گویا لطف کلام کے لیے کہاوتوں کا استعمال ضروری ہے۔ تحریر و تقریر اور زبان و ادب میں کہاوتیں اور ضرب الامثال موقع محل کے اعتبار سے کلام کی بلاغت کو بڑھانے میں مدد و گارثابت ہوتی ہیں۔ تجربات و مشاہدات جب چند مخصوص الفاظ کے کوڑے میں سماجاتے ہیں تو کہاوت یا ضرب المثل کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ پیش نظر اقوال و امثال عربی اور دو لغت 'المنجذ' سے مانوذ ہیں۔ اس لغت میں تقریباً ۲۰۰ اقوال و امثال ہیں جن سے طلب حسب ضرورت مستفید ہو سکتے ہیں۔

١. أَصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلُحْ لَكَ النَّاسُ.
٢. ضَرْبُ الْحَبِيبِ أَوْ جَعْ.
٣. ظُنُونُ الْعَاقِلِ خَيْرٌ مِّنْ يَقِينُ الْجَاهِلِ.
٤. رَأْسُ الدِّينِ صِحَّةُ الْيَقِينِ.
٥. سَائِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ.
٦. السِّرُّ أَمَانَةً.
٧. رُبُّ سُكُوتٍ أَبْلَغُ مِنْ كَلَامٍ.
٨. إِسْمَاعُ وَ إِلَّا تُصَدِّقُ.
٩. الظَّفَرُ بِالضَّعِيفِ هَزِيمَةً.
١٠. مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.
١١. مَنْ أَعَانَكَ عَلَى الشَّرِّ ظَلَمَكَ.
١٢. غِنَى النَّفْسِ أَفْضَلُ مِنْ غِنَى الْمَالِ.
١٣. أَفْضَلُ الْمَعْرُوفِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ.
١٤. الْمِزَاحَةُ تُذَهِّبُ الْمَهَابَةَ.
١٥. إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.
١٦. نُصْرَةُ الْحَقِّ شَرَفٌ.
١٧. مَنْ هَابَ خَابَ.

| | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Amend, remedy | درست کرنا، اصلاح کرنا | أَصْلَحُ يُصْلِحُ إِصْلَاحًا |
| Beating | مار | ضَربٌ |
| Beloved | دوست، محبوب | حَبِيبٌ ج: أَحِبَّاءُ |
| More painful | زياده تکلیف ده | أَوْجَعُ (اسمٍ تفضیل) |
| Apex, head | اصل، سر | رَأْسٌ ج: رُؤُوسُ |
| Fail | ناکام ہونا | خَابَ يَخِيبُ خَيْبَةً |
| More fluent | زياده بلغ | أَبْلَغُ (اسمٍ تفضیل) |
| Confirm, approve | تصدیق کرنا | صَدَقَ يُصَدِّقُ تَصْدِيقًا |
| Win, gain, achievement | جیت، کامیابی | الظَّفَرُ (بِ) |
| Defeat | ہار | هزِيمَةً |
| Recognize, know | پہچاننا | عَرَفَ يَعْرِفُ عِرْفَانًا |
| Good deed | نیکی | مَعْرُوفٌ |
| Help | مد کرنا | إِغَاثَةً |
| Oppressed | مظلوم | الْمَلْهُوفُ |
| Humour | نداق | الْمِزَاحَةُ |
| Carry away | لے جانا | أَذْهَبَ يُذْهِبُ إِذْهَابًا |
| Dignity | رعب، دبدب | مَهَابَةً |
| Women | عورتیں | نِسَاءٌ و: إِمْرَأَةٌ |
| Equal | هم پلہ (جمع) | شَقَائِقُ و: شَقِيقَةٌ |
| Help | مد | نُصْرَةً |
| Honour | شرافت، بزرگی | شَرَفٌ |
| Fear | ڈرنا | هَابَ يَهِيبُ هَيْبَةً |

١. إِمَلَأِ الْفَرَاغِ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ مِمَّا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ.

قوسین میں درج الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر تکمیل۔

Fill in the blanks with appropriate words given in the bracket.

(أَبْلَغُ ، يَصْلُحُ ، عَرَفَ ، الْمَالِ ، خَيْرٌ)

١. أَصْلَحْ نَفْسَكَ لَكَ النَّاسُ.

٢. ظُنُّ الْعَاقِلِ مِنْ يَقِينِ الْجَاهِلِ.

٣. رُبُّ سُكُوتِ مِنْ كَلَامٍ.

٤. مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدَ رَبَّهُ.

٥. غَنِيَ النَّفْسِ أَفْضَلُ مِنْ غَنِيٍّ

Match the following.

جوڑیاں لگائیے۔

٢. صِلِ الْعُمُودَيْنِ.

| الْعُمُودُ الثَّانِي | الْعُمُودُ الْأَوَّلُ |
|----------------------|------------------------|
| المَهَابَةُ | رَأْسُ الدِّينِ |
| شَرْفٌ | سَائِلُ اللَّهِ |
| لَا يَخِيبُ | الْمِزَاحَةُ تُذَهِّبُ |
| صِحَّةُ الْيِقِينِ | نُصْرَةُ الْحَقِّ |

٣. رَتِّبْ كَلِمَاتِ كُلِّ سَطْرٍ لِتَكُونَ جُمْلَةً مُفِيدَةً وَفُقَ الدَّرْسِ.

ہر سطر کے الفاظ کو سبق کی روشنی میں صحیح ترتیب دے کر با معنی جملے بنائیے۔

Arrange words of every line according to the lesson to make meaningful sentences.

١. أَوْجَعُ الْحَيْبِ ضَرْبُ

٢. رُبُّ مِنْ كَلَامٍ سُكُوتِ أَبْلَغُ

٣. أَعَانَكَ مَنْ ظَلَمَكَ عَلَى الشَّرِّ

٤. أَفْضَلُ النَّفْسِ مِنْ غِنَى غِنَى الْمَالِ

٥. الْمَعْرُوفِ الْمَلْهُوفِ أَفْضَلُ إِغَاثَةٍ

۲. أُكْتُبْ رَأِيْكَ عَلَى الْاَقْدَارِ الْجَيْمَاعِيَّةِ فِي صُوْرِ الْمَثَلِ التَّالِيِّ فِي لُغَيْكَ.
درج ذيل کہاوت کی روشنی میں آداب معاشرت کے بارے میں اپنی زبان میں اپنی رائے لکھیے۔


Write your opinion about social values in the light of the following proverb in your own language.

”أَفْضَلُ الْمَعْرُوفِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ“

Complete the crossword.

۵. حِلَّ اللَّغْزُ الْأَتْيَيْ. درج ذيل معمد حل کیجیے۔

الإِشَارَةُ:



اوپر سے نیچے: عَقْلُ کا اسم فاعل
دائیں سے بائیں: 'نا کام ہوا' کی عربی

۶. أُكْتُبِ الْجُمُوْعَ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَّةِ . درج ذيل الفاظ کی جمع لکھیے۔

حَبِيبٌ ، رَأْسٌ ، اِمْرَأَةٌ ، شَقِيقَةٌ

۷. أُكْتُبِ الْاَضْدَادَ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَّةِ . درج ذيل الفاظ کی ضد لکھیے۔

حَبِيبٌ ، خَابَ ، هَزِيمَةٌ ، إِغَاثَةٌ

۸. أُكْتُبُ أَرْبَعَةً مِنَ الْأَقْوَالِ وَ الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ غَيْرِ الْمَذُكُورَةِ فِي الدَّرْسِ .

چار ایسے عربی ضرب الامثال لکھیے جو سبق میں شامل نہیں ہیں۔

Write any four Arabic proverbs or sayings that are not mentioned in the lesson.

۹. أُكْتُبْ مَقَالَةً عَرَبِيَّةً مُشْتَمَلَةً عَلَى عَشْرِ جُمِلٍ عَلَى الْأَقْلَلِ حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ .

درج ذيل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ“

المضاف و المضاف إليه

اضافت کی تعریف: اسم کی طرف اسم کی نسبت کو 'اضافت' کہتے ہیں۔ جیسے بیٹھ الولد، مدرسہ البنات

مضاف کی تعریف: ایسا لفظ جس کی اضافت کی جائے۔

مضاف إليه کی تعریف: ایسا لفظ جس کی طرف اضافت کی جائے۔

مثلاً: بیٹھ الولد۔ اس مثال میں بیٹھ مضاف اور الولد مضاف إليه ہے۔

عربی ترکیب میں مضاف پہلے اور مضاف إليه بعد میں آتا ہے۔ مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتی اور مضاف إليه بمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف إليه کی ترکیب کو 'مركب اضافی' کہتے ہیں۔

المضاف إليه (The Possessor) and المضاف (المضاف)

In the possessive expression, one noun is the possessor called **المضاف إليه**, while the other is the possessed called **المضاف**. For example: بیٹھ الولد، مدرسہ البنات.

In Arabic, the possessed noun comes before the possessor.

For example — بیٹھ الولد : In this example بیٹھ is possessed noun i.e. is الولد and المضاف. The possessor i.e. المضاف إليه.

The rule of the possessive expression:

Alif Laam (ال) does not come before the possessed noun and also does not have nunation (حالة الجر). The possessor (المضاف إليه) will always be in genitive case (تنوين). The possessor can have المضاف إليه . The construction of المضاف إلى is called المركب الإضافي (Genitive Construction).

| Questions | سوالات | الأسئلة |
|-----------|--------|---------|
|-----------|--------|---------|

★ أكمل النشاطات التالية. درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ Complete the following activities.

١. أكتب تعريف المضاف و المضاف إليه مع الأمثلة. مضاف اور مضاف إليه کی تعریف مع مثال لکھیے۔

Define 'المضاف إليه' and 'المضاف' and illustrate with examples.

٢. أكتب تعريف المركب الإضافي.

مرکب اضافی کی تعریف لکھیے۔ Define 'المركب الإضافي' (possessive compound).

٣. أكتب أربعة مركبات إضافية.

چار مرکب اضافی لکھیے۔ Write any four possessive compounds.

رُفِيْدَةُ بِنْتُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

ابتدائیہ

قدیم زمانے سے مختلف پیشوں کو اہمیت حاصل ہے۔ طب کے پیشے کو ایک مقدس پیشہ تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ جان بچانا اور تکلیف کم کرنا طب کا اہم مقصد ہوتا ہے۔ اسلام میں موجود طب نبی کا ذخیرہ بھی ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے۔ صحابہؓ کے علاوہ صحابیاتؓ بھی طب میں پیش پیش رہی ہیں۔ ان میں حضرت رفیدہ بنت سعدؓ کا نام سب سے نمایاں ہے۔ ان کے خاندان میں یہ پیشہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ وہ مدینہ منورہ کی پہلی صحابیہ ہیں جنہوں نے طبی میدان میں اپنی مہارت کی وجہ سے نمایاں مقام حاصل کیا۔ انھیں پہلی مسلم ڈاکٹر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت رفیدہ غزوہ میں شریک ہوتیں اور زخمیوں کا علاج کرتیں۔ جڑی بوڑیوں سے دوائیں بنانے میں وہ اپنے معاصرین میں ممتاز مقام رکھتی تھیں۔ اس سبق کے ذریعے طبلہ خصوصاً طالبات کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میدیکل لیکل ٹائم میں مہارت حاصل کریں۔

وُلِدَتْ رُفِيْدَةُ بِنْتُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. كَانَتْ مِنْ أَوَّلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ دُخُولًا فِي الإِسْلَامِ. كَانَتْ رُفِيْدَةُ طَبِيعَةً مُسْلِمَةً وَ عُرِفَتْ بِالْمُمَرَّضَةِ الْأُولَى وَ الْجَرَاحَةِ الْأُولَى فِي الإِسْلَامِ. عُرِفَتْ رُفِيْدَةُ كَمُمَرَّضَةٍ عَطْوَفَةٍ وَ مُنْظَمَةٍ جَيِّدَةٍ لِمَهَارَاتِهَا الطِّبِّيَّةِ. سَاعَدَتْ رُفِيْدَةُ فِي حَلِّ الْمُشِكَّلَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمْرَاضِ إِلَى جَانِبِ مُسَاعِدَتِهَا لِلْأَطْفَالِ الْمُحْتَاجِينَ وَ رِعَايَتِهَا لِلْأَيْتَامِ وَ الْفَقَرَاءِ. نَشَأَتْ رُفِيْدَةُ فِي عَائِلَةٍ لَهَا صَلَةٌ قَوِيَّةٌ بِالْطِبِّ. فَوَالدُّهَا سَعْدُنَ الْأَسْلَمِيُّ، كَانَ طَبِيعَةً وَ مُعَلِّمًا لَهَا. حَيْثُ اِكْتَسَبَتْ رُفِيْدَةُ مِنْهُ الطِّبِّ. وَ قَدْ كَرَّسَتْ نَفْسَهَا لِلتَّمْرِيضِ وَ رِعَايَةِ الْمُرْضِى وَ أَصْبَحَتْ طَبِيعَةً. كَانَتْ تُقَامُ خَيْمَةُ رُفِيْدَةِ لِلِّعْلَاجِ فِي الْغَزَوَاتِ حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُ بِنَقْلِ الْجَرْحِيِّ إِلَى خَيْمَتِهَا. كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ سَعْدٌ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حُوِّلَ إِلَى خَيْمَةِ رُفِيْدَةِ لِلِّعْلَاجِ.

يُقَالُ إِنَّ رُفِيْدَةَ كَانَتْ تُمْدُ الْجُنُودَ الْجَرْحِيَّ بِالرِّعَايَةِ اثْنَاءَ الْغَزْوَةِ وَ تُوَقِّرُهُمْ خَيْمَتُهَا الْمَأْوَى مِنَ الرِّيَاحِ وَ حَرَارَةِ الصَّحْرَاءِ الْقَاسِيَّةِ. أَمَّا النَّفَقَاتُ فَقَدْ كَانَتْ مِنْ مَالِهَا الْخَاصِّ وَ جُهْدِهَا الدَّاتِيِّ. لَا تَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ عَوَضًا بَلْ كَانَتْ تَبَسَّغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَ قَدْ ثَبَّتَتْ أَنَّ رُفِيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ قَائِدَةً بَارِعَةً فِي مَجَالِ التَّمْرِيضِ فِي زَمِنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. وَ قَدْ شَارَكَتْ رُفِيْدَةُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَ أُحْدِي وَ الْخَنْدَقِ وَ خَيْرِهَا مِنَ

الغَزَوَاتِ. وَ لَمَّا كَانَ يَسْتَعِدُ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ لِغَزْوَةِ خَيْرٍ ذَهَبَتْ رُفِيَّةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِتَطْلُبَ مِنْهُ الْإِذْنَ لِلْمُشَارَكَةِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) إِلَيْكَ الْإِذْنَ بِالذَّهَابِ. قَدْ خَصَّ الرَّسُولُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) جُزُءًا مِنَ الْفَنِيمَةِ لِرُفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

إِسْتَمَرَتْ رُفِيَّةُ فِي جُهُودِهَا بِعِلاجِ الْجَرْحِيِّ. لَقَدْ قَامَتْ رُفِيَّةُ بِتَدْرِيبِ الْفَتَيَاتِ الْأُخْرَى فِي مَجَالِ التَّمْرِيْضِ مِثْلَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَ قَدْ دَاعَ صِيُّتْ رُفِيَّةَ فِي فَنِ الْجَرَاحَةِ وَ الْعَقَاقِيرِ وَ الْأَدْوِيَةِ وَ تَصْنِيَعِهَا وَ فِي تَضْمِيدِ الْجُرُوحِ.

Glossary

الفَاظُ وَ الْمَعَانِي

الْكَلِمَاتُ وَ الْمَعَانِي

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Outset | ابتدائي | أَوَّلُ و : أَوَّل |
| Lady doctor | خاتون ڈاکٹر | طَبِيعَةُ |
| Nurse | نرس | مُمَرِّضَةُ |
| Lady surgeon | خاتون سرجن | جَرَاحَةُ |
| Kind-hearted (F.) | نرم دل، مهربان | عَطُوفَةُ |
| Organizer (F.) | نظم کرنے والی | مُنَظِّمةُ |
| Perfect, excellent (F.) | ماہر(مؤنث) | جِيَدةُ |
| Medical skills / expertise | طبی مهارتیں | مَهَارَاتُ طِبِيعَةٍ |
| Help, aid | مد کرنا | سَاعَدَ يُسَاعِدُ مُسَاعِدَةً |
| Solving problems | مشکلات حل کرنا | حُلُّ الْمُشَكِّلَاتِ |
| Related to diseases | امراض سے متعلق | الْمُتَعَلِّقةُ بِالْأَمْرَاضِ |
| Besides, other than this | اس کے علاوہ | إِلَيْ جَانِبِ |
| Children | بچے | أَطْفَالُ و : طِفْلٌ |
| Care | گھہداشت | رِعَايَةٌ |
| Orphans | يتيم | أَيْتَامُ و : يَتِيمٌ |
| Grow up | نشوونما پانا، پروش پانا | نَشَأَ يَنْشَأُ نَشَأً |

| | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Family | خاندان | عائِلَةٌ |
| Connection | تعلق | صِلَةٌ |
| Strong | مضبوط | قوَيَّةٌ |
| Gain | حاصلٌ كرنا، كمانا | إِكْتَسَبَ يَكْتَسِبُ إِكْتِسَابًا |
| Dedicate | وقفٌ كرنا | كَرَسَ يُكَرِّسُ تَكْرِيسًا |
| Nursing | مريضونٌ كيْدَ بِهِ حال | تَمْرِيْضٌ |
| Be stationed | قامَ كيَا جانا | أُقِيمَ يُقَامُ إِقَامَةٌ |
| Tent | خيَمه | خِيمَةٌ ج: خِيَامٌ |
| War | جنگ (جمع) | غَزَوَاتٌ و: غَزَوَةٌ |
| Transportation | منتقلٌ | نَقلٌ |
| Be narrated, be told | روايتٌ كيَا جانا | رُوِيَ يُرُوَى رِوَايَةٌ |
| Be injured | زنْجٌ هونا | أُصِيبَ يُصَابُ إِصَابَةٌ |
| Be transferred, be shifted | منتقلٌ كيَا جانا | حُولَ يُحَوَّلُ تَحْوِيلًا |
| Treat | علاجٌ كرنا | دَاوَى يُدَاوِي مُدَاوَاهٌ |
| Help | مدٌّ كرنا | أَمَدَ يُمَدُّ إِمْدَادًا |
| Army | لشَّكْر | جُنُودٌ و: جُنْدِيٌّ |
| During, between | در میان، دوران | اثْنَاءٌ |
| Provide, supply | مهِيَا كرنا | وَفَرَ يُوفِرُ تَوْفِيرًا |
| Shelters | پناه گاہیں | مَأْوَى ج: مَآوِيٌّ |
| Wind | هوائیں | رِيَاحٌ و: رِيْحٌ |
| Enormous | سخت | قَاسِيَةٌ |
| Expense | خرج (جمع) | نَفَقَاتٌ و: نَفَقَةٌ |
| Hardwork, effort | محنت | جُهُدٌ ج: جُهُودٌ |

| | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Take | لِيْنَا | أَخْدَأْ يَأْخُذُ أَخْدَأْ |
| Compensation | صَلَهُ، أُجْرَت | عِوْضٌ |
| Like, prefer | چَاهِنَا، پَسْنَدْ كَرْنَا | إِبْتَغَى يَبْتَغِي إِبْتَغَاءً |
| Be proved | ثَابَتْ هُونَا | ثَبَتَ يَشْبُثُ ثُبُوتًا |
| Leader (F.) | خَاتَونَ رَهْبَر | قَائِدَةً |
| Skilled, expert (F.) | مَاهِرٌ (مَوْنَثٌ) | بَارِعَةً |
| Department, field | شَعْبَه | مَجَالٌ ج : مَجَالَاتٌ |
| Participate | شَرَكَتْ كَرْنَا | شَارِكَ يُشَارِكُ مُشَارِكَةً |
| Prepare | تَيَارَى كَرْنَا | إِسْتَعْدَدَ يَسْتَعْدُدُ إِسْتَعْدَادًا |
| Army | لَشْكَر | جِيشٌ ج: جُيُوشٌ |
| Permission | اِجَازَت | إِذْنٌ |
| Allot, assign | مَخْصُوصَ كَرْنَا | خَصَّصَ يُخَصِّصُ تَخْصِيصًا |
| Booty | مَالِ غَيْمَت | غَيْمَةً |
| Continue | جَارِي رَهْنَا | إِسْتَمَرَ يَسْتَمِرُ إِسْتَمْرَارًا |
| Training | تَرْبِيَت | تَدْرِيْبٌ |
| Girls | لَڑَكِيَّاں | فَتَيَّاثٌ و: فَتَاهٌ |
| Spread | پَھِيلَنا | ذَاعَ يَذِيْعُ ذَيْعًا |
| Fame | شَهْرَت | صِيَّثٌ |
| Drugs | دوَائِيْسٌ (جَطْرِي بُوْشِيَّاں) | عَقَاقِيرٌ و: عَقَارٌ |
| Medicines | دوَائِيْسٌ | أَدْوِيَةً و: دَوَاءً |
| Make, prepare | بَنَانَا | تَصْنِيْعٌ |
| Dressing | مَرْهَمْ پُنِي | تَضْمِيْدٌ |
| Injury | زَخْمٌ | جُرُوحٌ و: جُرْحٌ |

١. إِمَالَةُ الْفَرَاغِ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ مِمَّا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ.

قوسین میں درج الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر تکیہ۔

Fill in the blanks with appropriate words given in the bracket.

(سَاعَدَتْ ، عَطُوفَةٌ ، الْمَدِينَةُ ، طَبِيعَةً)

١. كَانَتْ مِنْ أَوَائِلِ أَهْلِ دُخُولًا فِي الإِسْلَامِ.


٢. كَانَتْ رُفِيْدَةً مُسْلِمَةً.

٣. عُرِفَتْ رُفِيْدَةُ كَمْمَرَضَةً

٤. رُفِيْدَةُ فِي حَلِّ الْمُشْكَلَاتِ.

٥. أَكْمَلَ الشَّبَكَاتِ التَّالِيَةَ.


Complete the following web. درج ذیل خاکے کمل کیجیے۔



١.

٢.

رُفِيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا



٣.

٣. رَتِّبْ كَلِمَاتِ كُلِّ سَطْرٍ لِتَكُونَ جُمْلَةً مُفِيدَةً وَفُقَ الدَّرْسِ.

ہر سطر کے الفاظ کو سبق کی روشنی میں صحیح ترتیب دے کر بامعنی جملہ بنائیے۔

Arrange words of every line according to the lesson to make meaningful sentences.

١. صِلَةٌ قَوِيَّةٌ فِي عَائِلَةٍ لَهَا بِالطِّبِّ نَشَأَتْ رُفِيْدَةُ

٢. وَ مُعَلِّمًا لَهَا كَانَ طَبِيبًا سَعْدُ النِّاسِ الْمُسْلِمِيُّ فَوَالدُّهَا

٣. فِي الْغَزَوَاتِ لِلْعِلاجِ خَيْمَةً كَانَتْ تُقَامُ رُفِيْدَةُ

Complete the crossword.

درج ذيل معهہ حل کیجیے۔

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| خ | | د | ھ | ج | | ع | ا |
| ی | | | ع | ن | ی | ص | ت |
| م | | | ح | و | ر | ص | ج |
| ة | | | و | د | ا | ف | |
| ق | | | ا | ت | ز | غ | |

۳. حل اللغز الآتي۔

مثال: کوشش

الإشارة:

اوپر سے نیچے: اشکر، پنڈال، شہرت

دائیں سے بائیں: بہانا، زخم، دوائیاں، جنگیں

۵. أُلقي الضوء على هذه الجملة في لغتك.

درج ذيل جملے کی اپنی زبان میں وضاحت کیجیے۔

Explain the following sentence in your own language.

”وَقَدْ دَاعَ صِيُّتُ رُفِيَّةَ.“

۶. أكُتب الجموع للمفردات التالية. درج ذيل واحد کی جمع لکھیے۔

طبیعت، ریح، جہد، اجر، خیمة، جیش

۷. أكُتب المفردات للجموع التالية. درج ذیل جمع کے واحد لکھیے۔

Write singulars of the following plurals.

أطفال، أيتام، مرضى، جنود، مأوى، أدوية

۸. إقرأ الجمل التالية وأكتب الموصوف والصفة على حدة.

درج ذیل جملوں کو پڑھ کر موصوف اور صفت کو الگ الگ لکھیے۔

Read the following sentences and write صفة and موصوف separately.

۱. عرفت رفيدة كممرضة عطوفة

۲. نشأت رفيدة في عائلة لها صلة قوية بالطب.

۳. وقد ثبتت أن رفيدة كانت قائدة بارعة في مجال التمريض.

۹. أكتب مقالة عربية مشتملة على عشر جمل على الأقل حول الموضوع التالي.

درج ذیل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”المُسْتَشْفِي“

الجملة المفيدة و غير المفيدة

جملہ کی دو تسمیں ہیں: جملہ مفیدہ اور جملہ غیر مفیدہ۔

جملہ مفیدہ: ایسا جملہ جس میں بات مکمل ہوتی ہے جیسے رُفِيَّةٌ طَبِيَّةٌ (رُفیدہ ڈاکٹر ہے) کتب حامد (حامد نے لکھا)

جملہ غیر مفیدہ: ایسا جملہ جس میں بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ جملہ غیر مفیدہ میں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری شامل ہیں۔ جیسے

المَدِينَةُ الْجَمِيلَةُ (خوبصورت شہر)، حرارة الصحراء (ریگستان کی گرمی)، هذا القلم (یہ قلم)، فی المَدِینَةِ (شہر میں)،

پہلی مثال مرکب توصیفی کی ہے جس میں "المَدِینَةُ" موصوف اور "الْجَمِيلَةُ" صفت ہے۔

دوسری مثال مرکب اضافی کی ہے جس میں "حرارة" مضاد اور "الصحراء" مضاد الیہ ہے۔

تیسرا مثال مرکب اشاری کی ہے جس میں "هذا" اسم اشارہ اور "القلم" مشارک الیہ ہے۔

چوتھی مثال مرکب جاری کی ہے جس میں "فی" حرف جار اور "المَدِینَةُ" مجرور ہے۔

چاروں مثالوں میں بات مکمل نہیں ہو رہی ہے لہذا چاروں جملہ جملہ غیر مفیدہ ہیں۔

الجملة المفيدة و غير المفيدة (Complete and Incomplete Sentence)

There are two types of sentences in Arabic; Complete sentence and Incomplete Sentence.

Complete Sentence: A sentence where full meaning of the same is conveyed.

Eg. كَتَبَ حَامِدٌ | (Rufaidah is a doctor.) (Hamid wrote.)

Incomplete Sentence: A sentence where the meaning is incomplete. Following compounds are Incomplete sentences. Adjectival compound, Possessive compound, Demonstrative compound, Prepositive compound. Eg. المَدِينَةُ الْجَمِيلَةُ (Beautiful city), حرارة الصحراء (Heat of the desert),

هذا القلم (This pen),

في المدينة (In the city).

The first example is of adjectival compound in which المَدِینَةُ is noun qualified and حارۃ is its adjective. The second example is of possessive compound in which the first noun is possessed and الصحراء is the possessor. The third example is of demonstrative compound in which هذا is demonstrative noun and القلم is demonstrated. The fourth example is of prepositive compound in which في is preposition and المَدِینَةُ is genitive noun (which is given كسرہ sign).

Questions

سوالات

الأسئلة

Complete the following activities.

درج ذیل سُرگرمیاں مکمل کیجیے۔

☆ أكمل النشاطات التالية.

Define الجملة المفيدة

أكتب تعريف الجملة المفيدة۔

. ۱

جملہ مفیدہ کی تعریف لکھیے۔

Define الجملة غير المفيدة

أكتب تعريف الجملة غير المفيدة۔

. ۲

جملہ غیر مفیدہ کی تعریف لکھیے۔

Write types of الجملة غير المفيدة

أكتب أقسام الجملة غير المفيدة۔

. ۳

جملہ غیر مفیدہ کی اقسام لکھیے۔

الْأَبُ الْعَاقِلُ

ابتدائية

حکمت و دانائی اور مصلحت کے ساتھ کسی کی اصلاح کی جائے تو یقیناً اس کے دور رہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اصلاح کا رگر ہوتی ہے۔ اس کے بخلاف ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کارو یا اختیار کیا جائے تو معاملہ اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حکمت اور موعظت کا راستہ اختیار فرمایا۔ آج والدین کے ساتھ اساتذہ کو بھی بچوں اور طلبہ کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے ایسے ہی طریقے اختیار کرنے چاہئیں جو ان کے لیے نفع بخش ہوں۔ مذکورہ واقعے میں ایک والد نے انتہائی حکمت و دانائی سے اپنے بیٹے کی غلطیوں کی اصلاح کی جس کے نتیجے میں ایک سست اور کامیل بچہ مختی اور ملک و ملت کے لیے مفید بن گیا۔

كَانَ لِرَجُلٍ وَلَدٌ يُحِبُّ اللَّعِبَ حُبًّا كَثِيرًا. وَ يَكْرَهُ الْعَمَلَ كُرْهًا شَدِيدًا. وَ كَانَتْ أُمُّهُ تُخْفِي عَنْ زَوْجِهَا حَالَ ابْنِهِ الْكَسْلَانِ. وَ هِيَ تَظُنُّ جَهْلًا مِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهَا.

ذَاتَ يَوْمٍ سَأَلَ الرَّجُلُ عَنِ ابْنِهِ. فَوَجَدَهُ يُضَيِّعُ وَقْتَهُ دَائِمًا فِي الْلَّعِبِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى نَجَارٍ لِيُشْتَغِلَ فِي ذُكَانِهِ، وَ اتَّفَقَ النَّجَارُ عَلَى أَنْ يُعْطِي الْوَلَدَ قِرْشًا فِي الْيَوْمِ أَجْرًا لَهُ، وَ لِكِنَّ الْوَلَدَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الصَّبَاحِ مُظْهِرًا أَمَامَ وَالِدِهِ أَنَّهُ يَدْهُبُ إِلَى ذُكَانِ النَّجَارِ، وَ كَانَ يَقْضِي سَائِرَ الْيَوْمِ فِي الْلَّعِبِ وَ الْكَسْلِ. فَإِذَا انْتَهَى الْيَوْمُ وَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَيَطْلُبُ قِرْشًا مِنْ عِنْدِهَا لِيُسَلِّمَهُ إِلَى أَبِيهِ.

وَ قَدْ كَانَ الْأَبُ يَأْخُذُ الْقِرْشَ وَ يَرْمِيهِ بَعِيدًا فِي الطَّرِيقِ، لَا نَهُ عَرَفَ بِذَكَائِهِ أَنَّ زَوْجَهُ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُعْطِي ابْنَهَا الْقِرْشَ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَ حُبًّا لَهُ. وَ لَمَّا نَفِدَتْ نُقُودُ الْأُمُّ قَالَتْ لِابْنِهَا : أَرْجُو يَا بُنْيَيْ أَنْ تَذَهَّبَ الْيَوْمَ إِلَى ذُكَانِ مُعَلِّمِكَ، لَا تَهُ لَمْ يَبِقَ عِنْدِي أَيُّ قِرْشٍ. فَذَهَبَ الْوَلَدُ كَمَا طَلَبَتْ مِنْهُ أُمُّهُ، وَ رَجَعَ فِي آخِرِ النَّهَارِ وَ مَعَهُ الْقِرْشُ الَّذِي اكْتَسَبَهُ، فَأَخْذَهُ مِنْهُ وَالِدُهُ، وَ أَرَادَ أَنْ يَرْمِيهِ كَعَادَتِهِ، فَصَرَّخَ الْوَلَدُ وَ أَمْسَكَ بِيَدِ أَبِيهِ، وَ قَالَ : لَا تَرْمِ يَا أَبِي؟ فَإِنِّي كَسَبْتُ هَذَا الْقِرْشَ الْيَوْمَ بِتَعْبِي وَ شُغْلِي الَّذِي اشْتَغَلْتُ بِهِ طُولَ النَّهَارِ فَلَا يَهُونُ عَلَيَّ أَنْ يَضَيِّعَ كَمَا ضَاعَ غَيْرُهُ مِنَ الْقُرُوشِ الَّتِي كُنْتُ آخْذُهَا مِنْ أُمِّي فِي الْأَيَّامِ الْمَاضِيَّةِ.

وَ عَرَفَ الْأَبُ أَنَّ ابْنَهُ أَحْضَرَ هَذَا الْقِرْشَ بِاجْتِهَادِهِ وَ شُغْلِهِ . وَ أَنَّهُ صَارَ وَلَدًا مُجْتَهِدًا وَ تَرَكَ الْلَّعِبَ وَ الْكَسْلَ. فَسُرَّ وَ انْبَسَطَ الْأَبُوَانِ كَثِيرًا. ثُمَّ اجْتَهَدَ الْوَلَدُ فِي صَنْعِهِ وَ اتَّقَنَهَا إِتْقَانًا عَظِيمًا ، فَنَجَحَ نَجَاحًا بَاهِرًا بِفَضْلِ اجْتِهَادِهِ وَ اسْتِقَامَتِهِ ، حَتَّى أَصْبَحَ زُمَلَاءُهُ يَسْتَعْجِبُونَ كَيْفَ صَارَ هَذَا الْكَسْلَانُ صَانِعًا نَشِيْطًا نَافِعًا لِلنَّاسِ وَ الْوَطَنِ.

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Dislike | ناپسند کرنا | كَرِهٌ يَكْرِهُ كُرْهًا |
| Hide | چُھپانا | أَخْفَى يُخْفِي إِخْفَاءً |
| Lazy | کاہل، سست | الْكَسْلَانُ |
| Waste | برباد کرنا | ضَيْعَ يُضَيْعُ تَضْيِيعًا |
| Send | بھیجننا | أَرْسَلَ يُرْسِلُ إِرْسَالًا |
| Carpenter | بڑھی | نَجَارٌ |
| Work | کام کرنا | إِشْتَغَلَ يَشْتَغِلُ إِشْتَغَالًا |
| Coin | سکہ | قِرْشٌ ج: قُرُوشٌ |
| Showing, appearing | ظاہر کرتے ہوئے | مُظْهِرًا |
| Spend | گزارنا | فَضَى يَقْضِي فَضَاءً |
| Laziness | کاہلی، سستی | كَسْلٌ |
| Give, hand over | دینا، سپرد کرنا | سَلَمَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا |
| Throw | چھیننا | رَمَى يَرْمِي رَمْيًا |
| Far | دور | بَعِيدٌ |
| Intelligence | ہوشیاری | ذَكَاءً |
| Finish | ختم ہونا | نَفَدَ يَنْفَدُ نَفَدًا وَ نَفَادًا |
| Cash | نقدی | نُقُودٌ و: نَقْدٌ |
| Hope | آمید کرنا | رَجَاءٌ يَرْجُو رَجَاءً |
| Return | لوٹنا | رَجَعَ يَرْجِعُ رُجُوعًا |
| Evening | دن کا آخری حصہ، شام | آخِرُ النَّهَارِ |
| Shout | چلنا | صَرَخَ يَصْرُخُ صَرْخًا وَ صُرُوخًا |
| Stop | روکنا | أَمْسَكَ يُمْسِكُ إِمْسَاكًا |
| Earn | کمائنا | كَسَبَ يَكْسِبُ كَسَبًا |

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Tiredness | تکان | تَعْبٌ |
| All day long | دن بھر | طُولَ النَّهَارِ |
| Be easy, be light | آسان ہونا، بلکہ ہونا | هَانَ يَهُونُ هَوْنَا |
| Get waste | ضائع ہونا | ضَاعَ يَضِيئُ ضَيَاعًا |
| Effort | کوشش | اجْتِهَادٌ |
| Be happy | خوش ہونا | سُرَّ يُسَرُّ سُرُورًا (مجھول) |
| Be delighted | مسرور ہونا | إِنْسَطَ يَنْبِسْطُ إِنْسَاطًا |
| Industry | صنعت | صَنْعَةٌ |
| Do skilfully | مضبوط کرنا، پختہ کرنا، مہارت سے کرنا | أَتَقَنَ يُتَقِّنُ إِنْقَانًا |
| Parents | والدین | أَبْوَانِ |
| Steadfast | ثابت قدی | إِسْتِقَامَةٌ |
| Colleagues | ساتھی (جمع) | رُمَلَاءُ وَ زَمِيلٌ |
| Admire | تعجب کرنا | إِسْتَعْجَبَ يَسْتَعْجِبُ إِسْتَعْجَابًا |
| Skilful | کارگیر | صَانِعٌ |
| Society | معاشرہ | مُجَتمَعٌ |
| Active | فعال، چست | نَشِيطٌ |



۱. إِمَالًا الفَرَاغِ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ مِنَ الْعَمُودِ.
ستون میں درج مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کپیجی۔

Fill in the blanks with appropriate words given in the column.

| |
|-----------|
| الرَّجُلُ |
| الْكَسْلِ |
| بِيَدِ |
| يُحِبُّ |

۱. كَانَ لِرَجُلٍ وَلَدٌ اللَّعِبَ حُبًّا كَثِيرًا.
۲. ذَاتِ يَوْمٍ سَالَ عَنِ ابْنِهِ.
۳. وَ كَانَ يَقْضِي سَائِرَ الْيَوْمِ فِي اللَّعِبِ وَ
۴. فَصَرَخَ الْوَلَدُ وَ أَمْسَكَ أَبِيهِ.

.٢ رَتَّبْ كَلِمَاتٍ كُلِّ سَطْرٍ لِتَكُونَ جُمْلَةً مُفِيدَةً وَفُقَ الدَّرْسِ.
ہر سطر کے الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر سبق کے مطابق با معنی جملے بنائیے۔

Arrange words of every line according to the lesson to make meaningful sentences.

١. الْعَمَلَ شَدِيدًا وَ يَكْرَهُ كُرْهًا
٢. وَ قَدْ يَاخُذُ كَانَ الْأَبُ الْقِرْشَ
٣. صَارَ مُجْتَهِدًا وَ أَنَّهُ وَلَدًا
٤. فِي الْوَلَدِ اجْتَهَدَ ثُمَّ صَنَعَتِهِ
٥. صِلِ الْعُمُودَيْنِ.

Match the following.

جوڑیاں لگائیے۔

| الْعُمُودُ الثَّانِي | الْعُمُودُ الْأَوَّلُ |
|----------------------------|--------------------------------|
| يَبْدِي أَبِيهِ | وَ يَكْرَهُ الْعَمَلَ |
| يَاخُذُ الْقِرْشَ | فَأَرْسَلَهُ إِلَى النَّجَارِ |
| كُرْهًا شَدِيدًا | وَ قَدْ كَانَ الْأَبُ |
| لِيُشْتَغِلَ فِي دُكَانِهِ | فَصَرَخَ الْوَلَدُ وَ أَمْسَكَ |

٣. أَكْتُبِ الْأَضْدَادَ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ۔ درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔

٤. يُحِبُّ ، الْكَثِيرُ ، الْكَسَلُ ، الصَّبَاحُ ، إِنْهَى ، غَرَبَتْ ، يَاخُذُ ، ذَهَبَ
إِقْرَأِ الْعِبَارَةَ التَّالِيَةَ وَ امْلِأِ الْفَرَاغَ بِحُرُوفِ الْجَارِ وَ فُقَ الدَّرْسِ۔
درج ذیل عبارت میں سبق کے مطابق حروف جار لکھ کر خالی جگہ پر لکھیے۔

Fill in the blanks with proper prepositions according to the lesson.

٥. ذَاتَ يَوْمٍ سَأَلَ الرَّجُلُ ابْنِهِ فَوَجَدَهُ يُضَيِّعُ وَقْتَهُ دَائِمًا الْعِبَرِ، فَأَرْسَلَهُ نَجَارٍ
لِيُشْتَغِلَ دُكَانِهِ، وَ اتَّفَقَ النَّجَارُ أَنْ يُعْطِي الْوَلَدَ قِرْشًا الْيُومِ أَجْرًا لَهُ۔
إِبْحَثُ عَنِ الْإِسْمِ وَ الْفِعْلِ وَ الْحَرْفِ الْجَارِ فِي الْجُمِلِ التَّالِيَةِ وَ كَمِيلِ الْجَدْوَلِ۔
درج ذیل جملوں میں اسم، فعل اور حرف جار تلاش کر کے جدول کمکل کیجیے۔

Find noun, verb and preposition in the following sentences and complete the table.

٦. سَأَلَ الرَّجُلُ عَنِ ابْنِهِ . فَأَرْسَلَهُ إِلَى نَجَارٍ .
٧. وَ يَرْمِيُهُ بَعِيدًا فِي الطَّرِيقِ . فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَالدُّهُ .

| الْحَرْفُ الْجَارُ | الْفِعْلُ | الْإِسْمُ |
|--------------------|-----------|-----------|
| | | |

٧. أكمل النشاطات التالية.
Complete the following activities.

١. من كان يحب اللعب جباراً؟
٢. كيف كان يضيع الابن وقته؟
٣. أكتب أعمال الولد.
٤. لماذا صرخ الابن وماذا قال لأخيه؟
٥. وضع عنواناً آخر لهذه القصة.

٨. أكتب مقالة عربيةً مشتملةً على عشر جمل على الأقل حول الموضوع التالي.
درج ذيل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.



”اسرتی“

Grammar

قواعد

القواعد

المركب الناقص

مركب ناقص کی چار قسمیں ہیں: مرکب جازی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔

مرکب جازی: مرکب جازی میں پہلے جز کو حرف جارا اور دوسرے جز کو مجرور کہتے ہیں۔ مثال:

فِي الْبَيْتِ يَا فِي بَيْتِ

مرکب اشاری: مرکب اشاری میں پہلا جز اسم اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا جز مشاہدیہ ہوتا ہے۔ مشاہدیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ مثال:

هَذِهِ الْمَدْرَسَةُ ذَلِكَ الْفَلَاحُ

مرکب توصیفی: مرکب توصیفی میں پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی میں عدد، جنس، اعراب اور معرفہ و نکره ہونے میں موصوف اور صفت کا لیکاں ہونا ضروری ہے۔ مثال:

الْوَلَدُ الْبَارُ مَدِينَةُ جَمِيلَةٌ

مرکب اضافی: مرکب اضافی میں پہلا جز مضاد اور دوسرا جز مضاد الیہ ہوتا ہے۔ مضاد الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مثال:

حَرَارَةُ الصَّحْرَاءِ

Incomplete Sentence مركب ناقص

There are four types of incomplete sentence: Prepositive compound, demonstrative compound, adjectival compound and possessive compound.

Prepositive Compound: The prepositive compound consists of مجرور جار (preposition) and the word followed by the preposition and the preposition with its noun is known as المركب الجاري. Eg.:

في البيت or في بيتِ

Demonstrative Compound: This compound consists of اسم اشاره (demonstrative noun) and مشار اليه (noun which is demonstrated). is always definite noun. Eg.:

ذلك الفلاح ، هذه المدرسة

Adjectival Compound: This compound consists of موصوف (noun qualified) and صفت (adjective). Adjective follows noun qualified in quantity, gender, case sign and definite or indefinite noun.

Eg.: الولد البار. مدينة جميلة.

Possessive Compound: In Arabic, possession (اصافت) is conveyed by genitive construction. i.e. one noun follows the other in the genitive case. Eg.:

حراة الصحراء



Questions

سوالات

الأسئلة

Complete the following activities.

درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔

اگر مکمل النشاطات التالية.

Explain Prepositive compound.

بین المركب الجاري.



۱.

Explain Demonstrative compound.

بین المركب الإشاري.

۲.

Explain Adjectival compound.

بین المركب التوصيفي.

۳.

Explain Possessive compound.

بین المركب الإضافي.

۴.

مُمْلَكَةُ النَّحْلِ

٦



ابتدائية

نظم وضبط انساني زندگی کے لیے ایک لازمی جز ہے۔ انسان جب منصوبہ بند طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو نہ صرف وہ اپنی ذات کے لیے سودمند ہوتا ہے بلکہ بھی نوع انسان کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی کا ایک راز ڈسپلن بھی ہے۔ اس سبق کے ذریعے شہد کی مکھی کے نظام زندگی کو خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے صحیح ہے کہ ہم بھی معاشرے میں، ہتر نظام و سسٹم قائم کریں۔

خَرَجَ الْمُعَلِّمُ مَعَ تَلَامِيذِهِ فِي رِحْلَةٍ إِلَى مَزْرَعَةِ قَرِيبِهِ لِيُشَاهِدُوا خَلِيلَةَ النَّحْلِ وَ مَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ عَجَائِبٍ. حِينَ شَاهَدُوا خَلِيلَةَ النَّحْلِ سَأَلَ أَحَدُ التَّلَامِيذِ : كَيْفَ تَبْنِي النَّحْلُ بُيُوتَهَا؟ بَدَا الْمُعَلِّمُ حَدِيثُهُ قَائِلاً : تَبْنِي النَّحْلُ بُيُوتَهَا مِنَ الشَّمْعِ، سُدَاسِيَّةُ الشَّكْلِ. وَ يَعْدُ بَعْضُهَا لِلْإِقَامَةِ، وَ بَعْضُهَا لِتَرْبِيَةِ النَّحْلِ، وَ الْبَعْضُ الْآخَرُ مِنْهَا تَكُونُ مَخَازِنَ لِلْعَسْلِ. وَ يُسَمَّى بَيْتُ النَّحْلِ 'الْخَلِيلَةُ'، وَ هِيَ كَالْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ تَعِيشُ فِيهَا النَّحْلُ، وَ هِيَ تَعْمَلُ دَائِمًا بِنِظَامٍ وَ تَعَاوُنٍ. وَ مِنْ خِلَالِ هَذَا النِّظامِ الرَّائِعِ نَحْصُلُ عَلَى الْعَسْلِ الشَّهِيِّ غَذَاءً وَ دَوَاءً.

سَأَلَ تَلَمِيذُ آخَرُ : مَنْ يَحْكُمُ هَذِهِ الْمَدِينَةَ؟

أَجَابَ الْمُعَلِّمُ : تَحْكُمُهَا مَلِكَةٌ عَظِيمَةٌ تُسَمَّى 'الْيَعْسُوبُ'، وَ هِيَ أَكْبَرُ النَّحْلِ حَجْماً وَ لَهَا خَادِمَاتٌ يَقْمَنُ بِخَدْمَتِهَا.

فَالَّذِي تَعْمَلُ بِقِيَةُ النَّحْلِ فِي الْخَلِيلَةِ؟

فَالَّذِي تَعْمَلُ بِقِيَةُ النَّحْلِ تُعْرَفُ بِالشَّغَالَةِ، وَ لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ مِنْهَا عَمَلٌ مُعَيَّنٌ : مَجْمُوعَةٌ تَجْمَعُ الْمَاءَ، وَ مَجْمُوعَةٌ تَبْنِي الْبُيُوتَ، وَ بَعْضُهَا تَقْوُمُ بِتَرْبِيَةِ الصِّغارِ، وَ مَجْمُوعَةٌ تَخْدُمُ الْمَرْضَى، وَ مَجْمُوعَةٌ أُخْرَى تَقْوُمُ بِحِرَاسَةِ الْخَلِيلَةِ.

فَالَّذِي تَعْمَلُ بِقِيَةُ النَّحْلِ لَهَا عَقْلٌ تُفَكِّرُ بِهِ، فَكَيْفَ تَقْوُمُ بِتَنْظِيمِ عَمَلِهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ؟

الْجَيِّدةِ؟



فَالْمُعَلِّمُ : اللَّهُ خَلَقَهَا وَالْهَمَّهَا الْعَمَلَ بِهَذَا النِّظَامِ وَعَلَيْنَا أَنْ نُسْتَفِيدَ وَنَتَعَلَّمَ مِنْهَا النِّظَامَ وَتَنْسِيقَ الْعَمَلِ وَالْتَّعاوُنِ . كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِيهَا الْجِبَالَ بُيوْتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِّيٌّ



مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبْلَ رَبِّكِ ذُلْلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ سُورَةُ النَّحْلِ : ٦٨ - ٦٩



Glossary الفاظ ومعانی الکلمات و المعنی

| | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kingdom | سلطنت، مملکت | مَمْلَكَةٌ ج: مَمَالِكُ |
| Honeybee | شہد کی کمپی | نَحْلٌ |
| Farm | کھیت | مَزْرَعَةٌ ج: مَزَارِعُ |
| See, observe | دیکھنا، مشاہدہ کرنا | شَاهَدَ يُشَاهِدُ مُشَاهَدَةً |
| Deposit | ودیعت کرنا، رکھنا | أَوْدَعَ يُؤْدِعُ إِيَادَاعًا |
| Wonders | عجبات | عَجَائِبُ و: عَجِيَّةٌ |
| Wonderful, awesome | عَمَدَه | رَائِعٌ ج: رَوَائِعٌ |
| Beehive | چھتا | خَلِيلَةٌ ج: خَلَالِيَا |
| Ask | پوچھنا | سَأَلَ يَسْأَلُ سُؤَالًا |
| Saying, conversation | بات، گفتگو | حَدِيثٌ ج: أَحَادِيثٌ |
| Make, build | بنانا، تعمیر کرنا | بَنَى يَبْنِي بِنَاءً |
| Houses | گھر (جمع) | بُيُوتُ و: بَيْتٌ |
| Start | شروع کرنا | بَدَأَ يَبْدَا بَدْءًا |
| Wax | موم | شَمْعٌ |
| Hexagon | مسدس، شش رخی | سُدَاسِيَّةُ الشَّكْلِ |

| | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Be prepared | تیار کیا جانا | إِعْدَادٌ إِعْدَادًا |
| Residence | رہائش | إِقَامَةٌ |
| Storages, treasuries | ذخیرہ کرنے کی جگہیں، گودام | مَخَازِنٌ وَ مَخْزُونٌ |
| Honey | شہد | عَسلٌ |
| Tasty | لذیذ | شَهِيٌّ |
| Rule | حکومت کرنا | حَكْمٌ يَحْكُمُ حُكْمًا |
| Answer | جواب دینا | إِجَابَةٌ يُجِيبُ إِجَابَةً |
| Queen | رانی | مَلِكَةٌ |
| Drone | مکھی رانی | الْيَعْسُوبُ |
| Size | ضخامت | حَجْمٌ |
| Maids | خادمائیں | خَادِمَاتٌ وَ خَادِمَةٌ |
| Be known | پہچانا جانا | عِرْفٌ يُعْرَفُ عِرْفًا |
| Worker | کارکن | شَغَالٌ |
| Group | گروہ | مَجْمُوعَةٌ |
| Appointed, fixed | مقرر | مُعِينٌ |
| Serve | خدمت کرنا | خَدَمَ يَخْدُمُ خِدْمَةً |
| Safeguard | حفاظت، نگہداشت | حِرَاسَةٌ |
| Insect | کیڑا | حَسَرَةٌ ج: حَسَرَاتٌ |
| By best way | بہتر طور پر، اچھے طریقے سے | بِالصُّورَةِ الْجَيِّدَةِ |
| Reveal | آگاہ کرنا، الہام کرنا | أَلْهَمَ يُلْهِمُ إِلْهَامًا |
| Benefit | فائدة حاصل کرنا | إِسْتِفَادَةٌ يَسْتَفِيدُ إِسْتِفَادَةً |
| Learn | سیکھنا | تَعْلَمَ يَتَعَلَّمُ تَعْلَمًا |
| Arrangement, system | ترتیب، نظام | تَنْسِيقٌ |
| Make | بنانا | إِتَّخَادٌ يَتَخَذُ إِتَّخَادًا |
| Construct | تعمیر کرنا | عَرْشٌ يَعْرِشُ عَرْشًا |

| | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Eat (Imperative Sing. F.) | تُوكِّهَا | كُلُّ (فعل امر - واحد مؤنث) |
| Fruits | چَلْ | ثَمَرَاتٌ و : ثَمَرَة |
| Follow, comply | چَنَا | سَلَكَ يَسْلُكُ سَلَكًا |
| Ways | رَاسَتَ | سُبُّلُ و : سَبِيلُ |
| Smooth, easy | نَزْمٌ، آسَانٌ | ذُلُلٌ |
| Stomachs | پَيْطٌ (جمع) | بُطُونٌ و : بَطْنٌ |
| Colours | رَنْجٌ (جمع) | الْوَانٌ و : لَوْنٌ |
| Think | غُورٌ و فَكْرٌ كَرَنَا | تَفَكَّرٌ يَتَفَكَّرُ تَفَكُّرًا |



مشق

الْتَّمْرِينُ

Fill in the blanks with appropriate words given in the column.

الْخَلِيلَةُ
النَّحْلُ
لِلإِقَامَةِ
مَخَازِنَ

١. تَبَنِي بِيُوتَهَا مِنَ الشَّمْعِ ، سُدَاسِيَّةُ الشَّكْلِ.
٢. وَيُعَدُّ بَعْضُهَا
٣. وَالْبَعْضُ الْأَخْرُ مِنْهَا تَكُونُ لِلْعَسْلِ
٤. وَيُسَمَّى بَيْتُ النَّحْلِ

Complete the following activities.

٢. أَكْمَلِ النَّشَاطَاتِ التَّالِيَةَ. درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔



١. أَكْتُبُ عَنْ مَقْصِدِ الرِّحْلَةِ.
 ٢. أَكْتُبُ اسْمَ بَيْتِ النَّحْلِ.
 ٣. أَكْتُبُ اسْمَ مَلِكَةِ النَّحْلِ.
 ٤. أَكْتُبُ عَنِ الْخَلِيلَةِ.
 ٥. أُذْكُرُ مَا نَحْصُلُ مِنَ النَّحْلِ.
٣. ضَعْ عَلَامَةً (✓) مُقَابِلَ الْجَوابِ الصَّحِيحِ
- صحیح جواب کے سامنے (✓) نشان لگائیے۔

Put (✓) mark on correct answers.

١. خَرَاجُ الْمُعَلِّمُ مَعَ تَلَامِيذهِ فِي رِحْلَةٍ إِلَى
.....
- الْمَنْزِلَةُ (.....)
- الْبَلْدِ (.....)
- السُّوقِ (.....)

- .٢. تَبْنِي النَّحْلُ بُيُوتَهَا مِن
الرَّهْرِ (.....) الشَّمْعِ (.....) العَشِبِ (.....)
- .٣. وَ مَجْمُوعَةٌ تَحْدُم
الْيَعْسُوبِ (.....) الْمَرْضِيِ (.....) الصَّيْفِ (.....)
- .٤. اللَّهُ خَلَقَهَا وَ أَهْمَهَا بِهَذَا النِّظَامِ
الْعَمَلِ (.....) الْوَحْيِ (.....) النَّحْلَ (.....)
- .٥. أَكْمِلِ الشَّبَكَاتِ التَّالِيَّةَ . درج ذيل خاکے مکمل کیجیے۔

Complete the following webs.



Write about beehive in Arabic.

.٥. أَكْتُبْ عَنْ بَيْتِ النَّحْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ .

شہد کی کھی کے چھتے کے بارے میں عربی میں لکھیے۔

.٦. صِلِ الْأَضَادَ فِي الْعُمُودَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ .

ستونوں میں درج اضداد کی جوڑیاں لگائیے۔

Match the antonyms from the columns.

| الْعُمُودُ الثَّانِي | الْعُمُودُ الْأَوَّلُ |
|----------------------|-----------------------|
| تَفْرُقٌ | يَعِيشُ |
| يَمُوتُ | تَبْنِي |
| تَهْدِمُ | تَجْمَعُ |
| الْأَصْحَاءُ | الْجَيْدَةُ |
| الرَّدِيْئَةُ | الْمَرْضِيُّ |

.٧. أَكْتُبْ مَقَالَةً عَرَبِيَّةً مُشَتمَلَةً عَلَى عَشْرِ جُمِلٍ عَلَى الْأَقْلِ حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ .
درج ذيل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”بَيْتِي“

المُبْتَدأُ وَ الْخَبَرُ

جو جملہ اسی سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے پہلے جزو مبتدا اور دوسرے جزو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا کا اسم ہونا ضروری ہے جبکہ خبر عموماً اسم ہوتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر معرفہ ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ بناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے۔ مبتدا مذکور ہو تو خبر بھی مذکور ہوگی۔ مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح واحد، تثنیہ اور جمع میں بھی یکسانیت ضروری ہے۔ مثال: اللہ خالق۔ النحلہ مفیدۃ۔ المعلمون مشفقوں۔ الینتان کاتباتان۔ ان جملوں میں پہلا لفظ مبتدا ہے اور آخری لفظ خبر ہے۔ البتہ اگر مبتدا جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث ہوگی۔ جیسے: الکتب ثمینۃ۔

Subject and Predicate (المُبْتَدأُ وَ الْخَبَرُ)

الْخَبَر (المُبْتَدأ) The first part in a nominal clause is called (المُبْتَدأ) (Subject) and its second part is called (Predicate). The subject (المُبْتَدأ) should be a noun while the predicate generally is a noun. The subject is proper noun (المعرفة) and the predicate is common noun (النكرة).

خبر and مبتدأ together make a sentence. It should be noted that there should be agreement between خبر and مبتدأ. If مبتدأ is masculine then the خبر should be masculine. In the same way if مبتدأ is feminine then the خبر would be feminine. In the same way there should be agreement between مبتدأ and خبر in respect of singular, dual and plural. For example:

الله خالق۔ النحلہ مفیدۃ۔ المعلمون مشفقوں۔ الینتان کاتباتان۔

In the above examples, first words or parts are مبتدأ while the last words or parts are خبر.

Remember, if the subject (مبتدأ) is broken plural then the predicate (خبر) will be singular feminine. For example الکتب ثمینۃ

| Questions | سوالات | الأسئلة |
|-----------|--------|---------|
|-----------|--------|---------|

- ★ اکمل النشاطات التالية۔ درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔
- ۱۔ اکتب أجزاء الجملة الاسمية وأسماءها مع الأمثلة۔
جملہ اسمیہ کے کتنے جزو ہوتے ہیں؟ ہر ایک کا نام اور ایک ایک مثال لکھیے۔

How many parts are there in a nominal sentence? Write their names and give examples.

۲۔ میز بین المبتدأ و الخبر فی الحجم الاتية۔

Identify مبتدأ and خبر in the following sentences۔ درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی شناخت کیجیے۔

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| (۳) النحلہ حشرۃ۔ | (۲) رفیدۃ طبیۃ مسلمة۔ |
| (۴) السر امانۃ۔ | (۵) الشور خیر رفیق۔ |
| (۶) جامعۃ الاڑھر مؤسسة علمیۃ۔ | |

فِطْنَةُ أَرْنَبٍ

ابتدائية

عقلمندی و دانائی قدرتی عظیمہ ہے جس کا استعمال کر کے انسان بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر لیتا ہے اور دشمن کو اپنی ذہانت کی بنا پر زیر کر سکتا ہے۔ یہ اہم صفت کسی قدر جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کہانی سننا انسان کو پسند ہے۔ حکمت کی باتیں اور اخلاق و آداب معاشرت کو ذہن نشین کرنے کے لیے صدیوں سے قصہ گوئی کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ خشک موضوعات کو دلچسپ پیرایے میں بیان کرنا قصہ گوئی کا کمال ہے۔ اس کے لیے انسان کے علاوہ بسا اوقات جانوروں کے کردار کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ ”پیغ تنز“، اور ”کلیلہ و دمنہ“ اس کی شہرہ آفاق مثالیں ہیں۔ مذکورہ سبق میں ایک خرگوش اپنی ذہانت سے اپنے قبیلے کو ہاتھیوں کی زیادتی سے بچا لیتا ہے۔

كَانَتْ جَمَاعَةُ الْأَفْيَالِ تَسْكُنُ أَرْضًا كَثِيرَةُ الْمَرَاعِيِّ وَ الْأَشْجَارِ وَ بَعْدَ فَتْرَةِ جَفَّ مَاءُهَا وَ ذُبْلَتْ أَشْجَارُهَا. فَهَا جَرَتِ الْأَفْيَالُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى كَانَتْ تَمْلِكُهَا جَمَاعَةُ الْأَرَانِبِ وَ تُسَمِّي أَرْضَ الْقَمَرِ لِكُثْرَةِ عَيْوَنِهَا وَ لِأَنَّ الْقَمَرَ كَانَ يَظْهَرُ فِي مَاءِهَا لَيْلًا.

وَ لَمَّا نَزَلَتِ الْأَفْيَالُ تِلْكَ الْأَرْضَ دَاسَتْ جُحُورَ الْأَرَانِبِ فَهَدَمَتْهَا. فَاجْتَمَعَتِ الْأَرَانِبُ لِتُفَكَّرَ فِي أَمْرِ هُؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ الَّذِينَ مَلَكُوا أَرْضَهُمْ وَ هَدَمُوا مَسَاكِنَهُمْ. وَ كَانَتْ بَيْنَ الْأَرَانِبِ أَرْنَبٌ فَصِيَحَّةُ الْلِسَانِ وَ صَاحِبَةُ الْعُقْلِ، فَاخْتَارَتْهَا الْأَرَانِبُ سَفِيرًا إِلَى مَلِكِ الْأَفْيَالِ، لِتَمْنَعَهُ مِنِ الْإِعْتِدَاءِ، وَ يُتْرُكَ أَرْضَ الْأَرَانِبِ.

ذَهَبَتِ الْأَرْنَبُ إِلَى مَلِكِ الْأَفْيَالِ وَ قَالَتْ : أَيُّهَا الْمَلِكُ الْكَبِيرُ ! إِنَّ الْقَمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأُخْبِرَكَ بِإِنَّكَ اعْتَدَيْتَ عَلَى أَرْضِهِ وَ شَرِبْتَ مِنْ بُحَيْرَتِهِ الْوَاسِعَةِ، فَكَدَرْتَ مَاءَهَا. وَ هُوَ يَأْمُرُكَ أَنْ لَا تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ أَعْمَى بَصَرَكَ وَ أَهْلَكَ نَفْسَكَ.

فَقَالَ الْفِيلُ : وَ أَيْنَ ذَلِكَ الْقَمَرُ ؟

فَأَلَّتِ الْأَرْنَبُ : تَعَالَ مَعِي وَ انْظُرْهُ.

وَ فِي لَيْلَةٍ مُّقْمِرَةٍ ذَهَبَ مَلِكُ الْأَفْيَالِ مَعَ الْأَرْنَبِ إِلَى جَانِبِ الْقَمَرِ. فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى شَاطِئِ الْبُحَيْرَةِ نَظَرَ صُورَةَ الْقَمَرِ فِي الْمَاءِ، فَقَالَتْ لَهُ الْأَرْنَبُ : خُذْ بِخُرُوطُمِكَ قَلِيلًا مِنْ الْمَاءِ وَ اخْضَعْ لِلْقَمَرِ



حَتَّى يَصْفَحَ عَنْكَ. فَأَخَذَ الْفِيلُ الْمَاءَ بِخُرْطُومِهِ فَتَحَرَّكَ الْمَاءُ وَاهْتَزَّ الْقَمَرُ. فَقَالَ الْفِيلُ لِلْأَرْنَبِ : مَا لِلْقَمَرِ يَهْتَزُ ؟ هُلْ غَضِبَ مِنِي لِأَنِّي وَضَعْتُ خُرْطُومِي فِي الْمَاءِ ؟ فَقَالَتِ الْأَرْنَبُ : نَعَمْ ، إِنَّهُ غَضِبَ مِنْكَ . فَخَضَعَ الْفِيلُ مَرَّةً ثَانِيَةً وَ حَلَفَ أَلَا يَعُودُ إِلَيْ تِلْكَ الْبُحَيْرَةِ لِشُرْبِ الْمَاءِ وَ أَمَرَ جَمِيعَ الْأَفِيَالِ بِالْهِجْرَةِ مِنْ أَرْضِ الْقَمَرِ . وَ هَكَذَا نَجَحَتِ الْأَرْنَبُ بِذَكَائِهَا وَ حُسْنِ تَدْبِيرِهَا فِي إِخْرَاجِ الْعَدُوِّ مِنْ وَطَنِهَا .

Glossary الفاظ ومعانی الکلمات و المعنیں

| | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Intelligence, brilliance | هو شیاری، فنا نت | فِطْنَةٌ |
| Rabbit | خرگوش | أَرْنَبٌ |
| Elephants | ہاتھی (جمع) | أَفِيَالٌ وَ فِيلٌ |
| Pastures | چراگاہیں | الْمَرَاعِيُّ وَ الْمَرْعَى |
| Period, time | زمان، وقت | فَسْرَةٌ |
| Dry out | سوکھنا | جَفَّ يَجِفُّ جَفَّا |
| Wilt | مرجحانا | ذَبَلَ يَذْبَلُ ذُبُولًا |
| Migrate | ہجرت کرنا | هَاجَرَ يُهَاجِرُ مُهَاجِرَةً |
| Own | مالک ہونا | مَلَكَ يَمْلِكُ مِلْكًا |
| Be named | موسم کیا جانا | سُمِّيَ يُسَمِّي تَسْمِيَةً |
| Moon | چاند | قَمَرٌ ج: أَقْمَارٌ |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| Canals | نهریں | عَيْوُنٌ وَ عَيْنٌ |
| Appear | أُجَارُهُونَا | ظَاهِرٌ يَظْهَرُ ظَاهِرًا |
| Run over | روندنا | دَاسَ يَدُوسُ دَوْسًا |
| Holes | بَلْ (جمع) | جُحُورٌ وَ جُحُورٌ |
| Demolish | ڈھانا، گرانا | هَدَمَ يَهْدِمُ هَدْمًا |
| Gather | جَمْهُونَا | إِجْتَمَعَ يَجْتَمِعُ إِجْتِمَاعًا |
| Ponder, think over | غُور و فکر کرنا | فَكَرَ يَفْكِرُ تَفْكِيرًا |
| Houses | گھر (جمع) | مَسَاكِنُ وَ مَسَكِنٌ |
| Fluent (F.) | فصح البيان (مؤنث) | صَيْحَةُ الْلِسَانِ |
| Intelligent (F.) | عقل مند (مؤنث) | صَاحِبَةُ الْعُقْلِ |
| Select | چننا | إِخْتَارَ يَخْتَارُ إِخْتِيَارًا |
| Ambassador (F.) | نمائنده (مؤنث) | سَفِيرَةٌ |
| Stop | روکنا | مَنَعَ يَمْنَعُ مَنْعًا |
| Oppression | زيادتی کرنا | إِعْتِدَاءٌ |
| Leave | چھوڑنا | تَرَكَ يَتَرُكُ تَرْكًا |
| Send | بھیجننا | أَرْسَلَ يُرْسِلُ إِرْسَالًا |
| Convey, communicate | خبر دینا | أَخْبَرَ يُخْبِرُ إِخْبَارًا |
| Oppress | زيادتی کرنا | إِعْتَدَى يَعْتَدِي إِعْتِدَاءً |
| Lake | تالاب | بُحَيْرَةٌ |
| Muddle | گدلا کرنا | كَدَرَ يُكَدِّرُ تَكْدِيرًا |
| Cause blindness | اندھا کرنا | أَعْمَى يُعْمِي إِعْمَاءً |
| Come with me | میرے ساتھ آؤ | تَعَالَ مَعِي |
| Moonlit night | چاندنی رات | لَيْلَةُ مُقْمِرَةٍ |
| Stay | ٹھہرنا | وَقَفَ يَقِفُ وَقْفًا |

| | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Beach | ساحل، كناره | الشَّاطِئُ ج: الشَّوَاطِيْعُ |
| Elephant trunk | سوِنڈ | خُرُطُومٌ ج: خَرَاطِيْمُ |
| Bend, bow | جَكَنَا | خَضَعَ يَخْضُعُ خُضُوعًا |
| Forgive | معافٍ كرنا | صَفَحَ يَصْفَحُ صَفْحًا (عَنْ) |
| Shake | حَرَكَتَ كرنا | تَحَرَّكَ يَتَحَرَّكُ تَحْرُكًا |
| Tremble | لَرَزَنا | إِهْتَرَزَ يَهْتَرِزُ إِهْتَرَازًا |
| Be angry | غَصَّهُ هونا | غَضِبَ يَغْضُبُ غَضْبًا |
| Keep | رَكَنَا | وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا |
| Swear, take oath | قُتْمٌ كهانا، حلف أُثْهانا | حَلَفَ يَحْلِفُ حَلْفًا |
| Return | لوِّثنا | عَادَ يَعُودُ عَوْدًا |
| Succeed | كَامِيابٌ هونا | نَجَحَ يَنْجَحُ نَجَاحًا |
| Cleverness | عَقْلٌ مندي | ذَكَاءً |
| Idea | رَائِيَةً، مُتَدَبِّرٌ | تَدْبِيرٌ |



١. اُكْتُبِ الْجُمَلَ التَّالِيَّةَ بِالتَّرْتِيبِ الْمُنَاسِبِ وِفُقَ الدَّرْسِ.
سبق کی روشنی میں درج ذیل جملوں کو واقعی ترتیب میں لکھیے۔

Write the following sentences in proper sequence according to the lesson.

١. نَظَرَ صُورَةَ الْقَمَرِ فِي الْمَاءِ.
٢. أَغْمَى بَصَرَكَ وَأَهْلَكَ نَفْسَكَ.
٣. وَبَعْدَ فَتْرَةٍ جَفَّ مَاءُهَا وَذَبَّلَتْ أَشْجَارُهَا
٤. فَاخْتَارَتْهَا الْأَرْانِبُ سَفِيرَةً إِلَى مَلِكِ الْأَفْيَالِ
٥. فَخَضَعَ الْفِيلُ مَرَّةً ثَانِيَةً.
٦. أَمَرَ جَمِيعَ الْأَفْيَالِ بِالْهِجْرَةِ مِنْ أَرْضِ الْقَمَرِ.
٧. إِنَّهُ غَضِبَ مِنْكَ.

۲. اِمَّا الْفَرَاغُ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ مِمَّا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ.
قوسین میں درج الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر لکھیے۔

Fill in the blanks with appropriate words given in the bracket.

(تَخْرُجٌ ، أَرْسَلَنِي ، انْظَرْهُ ، فَهَدَمْتُهَا ، فَهَاجَرَتْ)

۱. الْأَفْيَالُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى
۲. دَاسَتْ جُحُورَ الْأَرَانِبِ
۳. إِنَّ الْقَمَرَ إِلَيْكَ لِأَخْبِرَكَ.
۴. وَأَنْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ.
۵. تَعَالَ مَعِيْ وَ

۳. أَكْمِلِ الشَّبَكَةَ التَّالِيَةَ. درج ذیل خاکہ کمک کیجیے۔



۴. رَتَّبْ كَلِمَاتِ كُلِّ سَطْرٍ لِتَكُونَ جُمْلَةً مُفِيدَةً وَفُقَ الدَّرْسِ.
ہر سطر کے الفاظ کو سبق کی روشنی میں صحیح ترتیب دے کر معنی جملے بنائیے۔

Arrange words of every line according to the lesson to make meaningful sentences.

۱. وَ كَانَتْ فَصِيحَةُ الْلِسَانِ بَيْنَ الْأَرَانِبِ أَرْنَبٌ.
۲. سَفِيرَةً فَاخْتَارَنَّهَا الْأَفْيَالِ مَلِكُ الْأَرَانِبِ إِلَى
۳. فَاخَذَ بِخُرُطُومِهِ الْفَيْلُ الْمَاءَ فَسَحَرَكَ الْقَمَرُ وَ اهْتَرَّ الْمَاءُ.
۴. حَتَّىٰ وَ اخْضَعَ عَنْكَ يَصْفَحَ لِلْقَمَرِ
۵. وَ ذَاهَبَتِ الْأَرَنْبُ مَلِكِ الْأَفْيَالِ وَ قَالَتِ إِلَيْهَا الْمَلِكُ الْكَبِيرُ.

Who said the following to whom?

۵. مَنْ قَالَ هَذِهِ الْجُمَلَ وَ لِمَنْ؟ یہ جملے کس نے کس سے کہے؟

۱. إِنَّ الْقَمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأَخْبِرَكَ.
۲. وَ أَيْنَ ذَلِكَ الْقَمَرُ؟
۳. تَعَالَ مَعِيْ وَ انْظَرْهُ.
۴. مَا لِلْقَمَرِ يَهْتَرُ؟ هَلْ غَضِبَ مِنِّي؟

٦. أَكْتُبِ الْمُفْرَدَاتِ لِلْجُمُوْعِ التَّالِيَةِ.

درج ذيل جمع واحد لکھیے۔

أَفْيَالُ ، أَرَانِبُ ، أَشْجَارُ ، الْعُيُونُ ، أَعْدَاءُ

٧. أَكْتُبِ الْأَضْدَادَ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ. مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔

واسِعَةٌ ، كَثِيرَةٌ ، عَدُوٌ ، أَخْدَى ، نَجَحَ

٨. كَوْنِ الْجَمَلَ الْمُفِيدَةِ بِاسْتِعَانَةِ الْكَلِمَاتِ الْأَتِيَةِ.

مندرجہ ذیل الفاظ استعمال کر کے بامعنی جملے بنائیے۔

Make meaningful sentences with the help of given words.

١. جَفَّ وَقَفَ

٢. فَصِيْحَةٌ الْقَمَرُ

٩. أَكْتُبْ مَقَالَةً عَرَبِيَّةً مُشْتَمَلَةً عَلَى عَشْرِ جَمِيلٍ عَلَى الْأَقْلَى حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ.

درج ذیل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”الفِيلُ“

Grammar

قواعد

القواعد

أَقْسَامُ الْجَمْعِ

جمع کی قسمیں: جمع کی دو قسمیں ہیں: (١) جمع سالم (٢) جمع مکسر

جمع سالم: جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی شکل برقرار رہے۔ اب اگر وہ لفظ مذکور ہے تو اس کی جمع 'جمع مذکر سالم' کہلاتے گی اور اگر وہ لفظ مونث ہے تو اس کی جمع 'جمع مؤنث سالم' کہلاتے گی۔

اس طرح جمع سالم کی دو قسمیں ہیں: (١) جمع مذکر سالم (٢) جمع مؤنث سالم

جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ: واحد کے آخر میں حالتِ رفع میں 'وْنَ'، کا اضافہ کیا جائے گا مثلاً مُسْلِمٌ سے مُسْلِمُونَ اور حالتِ نصب اور جر میں 'يُنَ'، کا اضافہ کیا جائے گا۔ مثلاً مُسْلِمًا یا مُسْلِمٍ سے مُسْلِمِینَ۔

جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ: واحد مؤنث کے آخر سے 'ة'، نکال کر حالتِ رفعی میں 'اٰت'، کا اضافہ کیا جائے گا مثلاً مُسْلِمَةٌ سے مُسْلِمَاتٌ اور حالتِ نصی میں 'اٰتٍ'، کا اضافہ کیا جائے گا۔ مثلاً مُسْلِمَةً یا مُسْلِمَةً سے مُسْلِمَاتٍ۔

جمع مؤنث سالم کے آخر میں حالتِ نصی میں بھی زیر ہی آتا ہے۔

جمع مکسر: جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی شکل برقرار نہ رہے۔ جیسے شَجَرٌ سے أَشْجَارٌ، كِتابٌ سے كُتُبٌ، بَيْتٌ سے بُيُوتٌ۔ عربی میں جمع مکسر کے کئی اوزان ہیں۔

جمع مكسر کی خبر، ضمیر، اسم اشارہ اور صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ مثلاً
 الْأَشْجَارُ طَوِيلَةٌ ، غُصُونُهَا كَثِيرَةٌ ، هَذِهِ الْبَيْوُتُ كَبِيرَةٌ ، الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ جَمِيلَةٌ۔
 درج بالامثالوں میں طویلہ، الأشجار کی خبر ہے۔ دوسری مثال میں 'ها' کی ضمیر الأشجار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تیسرا مثال
 میں ہذہ، البویوت کا اسم اشارہ ہے۔ چوتھی مثال میں الجدیدۃ، الکتب کی صفت ہے۔

أَفْسَامُ الْجَمْعِ Types of plurals

There are two types of plural in Arabic: جمع سالم (Sound Plural) and جمع مكسر (Broken Plural).

Sound plural: If all the vowels and consonants of the singular word retains then it is called Sound plural. It is based on standard pattern. If the word is Masculine then the plural of that word is called Masculine Sound Plural (جمع مذكر سالم) and for feminine word, plural will be called Feminine Sound Plural (جمع مؤنث سالم).

Hence the sound plural also has two kinds: Masculine sound plural (جمع مذكر سالم) and Feminine sound plural (جمع مؤنث سالم).

Method of making Masculine Sound Plural: It is based on the standard pattern i.e. add 'وْن' at the end of masculine singular word in nominative case. Eg. مُسْلِمٌ from مُسْلِمٌ

And in accusative and genitive case add 'يْن' at the end of masculine singular word.

Eg. مُسْلِمٍ from مُسْلِمًا and مُسْلِمِينَ from مُسْلِمَةً.

Method of making Feminine Sound Plural: It is based on the standard pattern i.e. replace 'ة' from feminine singular word with 'ات' in nominative case. Eg. مُسْلِمَةً from مُسْلِمَةٌ

In accusative and genitive case replace 'ة' at the end of feminine singular word with 'ات'. Eg. مُسْلِمَةً from مُسْلِمَةٌ

Feminine Sound Plural carries zer (زیر) in accusative case also.

Broken Plural: If vowels or consonants of the singular word are broken then it is called Broken plural. There are many scales (meters, اوزان) of broken plural in Arabic.

Eg. شَجَرٌ from أَشْجَارٌ , كِتَابٌ from كُتُبٌ بَيْتٌ from بَيْوُتٌ .

If the subject (المبتدأ) is broken plural then the predicate, pronoun, demonstrative noun, and adjective will be singular feminine. Eg.

الْأَشْجَارُ طَوِيلَةٌ (In this example طویلہ is predicate of broken plural).

الْأَشْجَارُ هُنَّا كَثِيرَةٌ (In this example ها is pronoun for broken plural).

الْبَيْوُتُ هَذِهِ كَبِيرَةٌ (In this example ہذہ is demonstrative noun for broken plural).

الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ جَمِيلَةٌ (In this example الجدیدۃ is adjective for broken plural).

☆ أكمل النشاطات التالية.

درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔

١. اكتب أقسام الجمع. جمع کی قسمیں لکھیے۔

٢. اكتب تعریف الجمع السالم مع الأمثلة.

جمع سالم کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔

٣. اكتب تعریف الجمع المكسر مع الأمثلة.

جمع مكسر کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔

Define the plural with examples.

☆ اكتب الجموع المكسرة في المربع من الجملة المذكورة.

مندرج ذیل جملوں میں سے جمع مكسر کے الفاظ الگ کر کے چون میں لکھیے۔

Write the plural in the boxes from the given sentences.

الآفیال ، المراعی

مثال: كانت جماعة الآفیال تسکن أرضًا كثیرة المراعی.

١. وبعد فترة جف ماها و ذلت أشجارها.

٢. دامت جحور الأرانب فهدمتها.

٣. وكانت بين الأرانب أربب فصيحة اللسان.

٤. ساعدت رفيده في حل المشكلات المتعلقة بالأمراض إلى جانب

مساعدتها للأطفال المحتاجين ورعايتها للأيتام والفقراء.

٥. خرج المعلم مع تلاميذه في رحلة إلى مزرعة قرية

٦. وبعض الآخر منها تكون مخازن للعسل.

٧. وبعضاها تقوم بتربية الصغار.

☆ اكتب الجموع للمفردات التالية.

درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے۔

Write plurals of the following singulars.


أربب ، مراعي ، شجر ، فترة ، ما ، فيل ، جماعة ، أرض ، قمر ، عين ،

جحر ، أمر ، عدو ، مسكن ، فصيحة ، لسان ، صاحبة ، عقل ، سفير ،

كبير ، بحيرة ، واسعة ، مرأة ، بصر ، نفس ، مقمرة ، شاطئ ، صورة ،

خرطم ، قليل ، وطن ، ليل ، ملك.

مُنَاظِرَةٌ بَيْنَ مُومَبَايِ وَ دِلْهِي



ابتدائیہ

ایسی گفتگو جس میں فریقین ایک دوسرے پر اپنی فضیلت و برتری ظاہر کرنے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کریں، اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ درج ذیل تمثیلی مناظرہ ہمارے ملک ہندوستان کے دو شہروں کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مناظرے میں ممبئی اور دہلی اپنی برتری جتنے کے لیے اپنی خصوصیات، ترقی اور تمدن کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں شہر اپنی تہذیب و تمدن، ترقی، ممکنی فرق وغیرہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں اور دونوں ہی اپنے سیاسی اور معاشی حالات کے اعتبار سے ملک میں اہم حیثیت کے حامل ہیں۔ ایک شہر ملک کی راجدھانی ہے جہاں سے پورے ملک پر حکومت کی جاتی ہے تو دوسرا شہر ایک ریاست کی راجدھانی ہونے کے باوجود پورے ملک کی معاشی راجدھانی کہلاتا ہے لیکن حقوق کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں۔

دِلْهِی : کیفَ أَنْتِ يَا صَدِيقَتِي الْبُحْرِيَّةَ فِي أَيَّامِ الْمَطَرِ؟

مُومَبَاي : أَنَا بِخَيْرٍ وَ عَافِيَّةٍ يَا صَدِيقَتِي. لَا يَضُرُّنِي الْمَطَرُ لَا نَبْيَىٰ دَائِمًا مُسْتَعِدَّةٌ لَا سُتْقِبَالِهِ، فَإِنَّ تَحْتَ أَرْضِي مَسَارِبُ، فَلَا يَبْقَى عَلَىٰ وَجْهِي مِنَ الْمَطَرِ شَيْءٌ، أَمَّا أَنْتِ فَلَعَلَّ مُصِيبَتِكَ عَظِيمَةٌ إِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ.

دِلْهِی : لَا تَتَفَأَخِرِي بِتِلْكَ الْمَسَارِبِ، وَ يَظْهُرُ أَنَّكِ تَجْهَلِينَ أَنِّي عَمِلْتُ أَحْسَنَ مِنْهَا وَ صِرْتُ بِذِلِكَ أَجْمَلَ مِنْكِ وَ أَنْظَفَ، وَ أَصْبَحْتُ أَجْمَلَ الْمُدْنِ فِي جَمِيعِ آسِيَا.

مُومَبَاي : أَمَّا الْجَمَالُ فَإِنَّيُ مُنْفَرِدٌ وَ أَمَّا الْكِبْرُ فَقَدْ إِنْفَرَدْتِ بِهِ أَنْتِ، وَ مَا هَذَا شَيْءٌ عَظِيمٌ تَفْتَحِرِينَ بِهِ، اُنْظُرِي إِلَى تِجَارَتِي وَ الْمَرَاكِبِ الرَّاسِيَاتِ فِي مِيَانَائِي، أَلَا يَدْلُلُ هَذَا عَلَى عَظَمَتِي؟


دِلْهِی : إِنَّ الْعَظَمَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، إِنِّي عَاصِمَةُ الْحُكُومَةِ مُنْدُ قُرُونٍ، وَ الْيَوْمَ أَيْضًا أَمْرِيُ نَافِذٌ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ الْهِنْدِ وَ أَنْتِ مِنْ جُمْلَتَهَا. فَلَا يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تُفَاخِرِي عَلَيَّ.

مُومَبَاي : سَلَّمْتُ أَنَّكِ عَاصِمَةُ بِلَادِ الْهِنْدِ لِكِنْ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّكِ حَاكِمَةُ وَ أَنَا مَحْكُومَةُ لَكِ. فَنَحْنُ سَوِيَّتَانِ فِي الْحُقُوقِ بَلْ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكِ مَالًا وَ وَسِيلَةً لِتَوْفِيرِ الْخَزَائِنِ الرَّسِمِيَّةِ. وَ لَوْلُمْ أَكُنْ لَكُنْتِ مُفْلِسَةً. وَ زِيَادًا عَلَىٰ ذَلِكِ إِنِّي مُتَصَلَّهُ بِبَحْرِ الْعَرَبِ.

دِلْهِی : لَا شَكَّ أَنَّكِ أَسْعَدُ حَظًّا وَ أَوْفَرُ مَالًا وَ ثُرُوَةً لِكِنْ لَيْسَ الْمَالُ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ، لِيُ شَقَافَةٌ هِنْدِيَّةٌ مُمْتَازَةٌ قَدِيمَةٌ وَ حَدِيثَةٌ. أَمَّا أَنْتِ فَلَيْسَ لَكِ أَيُّ نَقَافَةٍ. فَإِنَّ أَهْلَكِ مُخْتَلِفُونَ فِي مَا كِلَّهُمْ

وَمَشَارِبِهِمْ وَمَلَابِسِهِمْ وَآدَابِهِمْ وَتَقَالِيدهِمْ ، وَلَيْسَتْ فِيهِمْ وَحْدَةٌ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ ، وَمَا كَانَ
أَهْلُكِ فِي بِدَائِيَةِ الْأَمْرِ إِلَّا السَّمَّاكِينَ . وَإِنَّكِ تَعْلَمُنَ أَنِّي مَمْلُوَّةٌ بِالْأَثَارِ الْقَدِيمَةِ كَقُطْبٍ
مِيَّارَ وَالْقَلْعَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْجَامِعِ وَمَرْصَدِ السَّيَّارَاتِ وَالنُّجُومِ الْمَوْسُومِ بِ'جَنْتَرَ مَنْتَرَ' .

مُومَبَاي : كُنْتُ مَسْكَنًا لِلسَّمَّاكِينَ وَلَا رَيْبَ فِيهِ لِكَنَّ الْيَوْمَ أَهْلِي هُمْ أَصْحَابُ التِّجَارَةِ وَالثَّرَوَةِ وَ
ذُو الْحِرْفِ وَالصَّنَائِعِ . وَلِي عِمَارَاتٌ شَامِخَةٌ وَبَسَاطِينُ مُزْدَهِرَةٌ وَوَسَائِلُ الْحَمْلِ وَالنَّقلِ
السَّرِيعَةُ، وَلِي مَلَاهِيٌّ وَأَكْبَرُ صَنَاعَةِ الْأَفْلَامِ فِي الْهِنْدِ . وَلِكَنْ عَلَيْنَا يَا صَدِيقِي أَنْ نَتَرَكَ
هَذَا التَّفَاخُرَ . فَقَدْ تَقْلَبَتْ عَلَى كُلِّ مِنَّا أَحْوَالٌ وَأَرْمَانٌ وَقَدْ أَصْبَحْنَا الآن جَسَدًا وَاحِدًا . لَا
يُفَرِّقُنَا إِلَّا الْبَعْدُ فَلَنِعْشُ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ .



دِلْهِي : آنَا أَفْدِيُكِ بِرُوحِي وَمَالِي وَأَدْفَعُ
عَنْكِ كُلَّ عَدُوٍّ لِنَعْشُ بِسَلَامٍ .

مُومَبَاي : وَكَذِلِكِ أَعْمَلُ ، فِي الْلِقاءِ .

الكلمات والمعاني

Glossary

الغَازِلُ وَمَعَانِي

| | | |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| Friend (F.) | سيهلي | صَدِيقَةٌ ج: صَدِيقَاتٌ |
| Oceanic | سمدرى | بَحْرِيَّةٌ |
| Harm | نقسان پنچانا | ضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا |
| Ready (F.) | تيار، چاق و چوبند (مؤنث) | مُسْتَعِدَّةٌ |
| Receive | استقبال | الْأَسْتِقبَالُ |
| Gutters, sewers | ناليان | مَسَارِبُ و: مَسَرَبٌ |
| Remain | باقي رهنا | بَقِيَ يَبْقَى بَقَاءٌ |
| Face, surface | چهره، سطح | وَجْهٌ ج: وُجُوهٌ |
| Flow, pour | گرنا، نازل ہونا | نَزَلَ يَنْزِلُ نُزُولًا |
| Pride | فخر کرنا | تَفَاخَرُ يَتَفَاخَرُ تَفَاخُرًا |
| More beautiful | زياده خوب صورت | أَجْمَلُ (اسم تفضيل) |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| More clean | زياده صاف سترها | أَنْظَفُ (اسم تفضيل) |
| To become | هو جانا | أَصْبَحَ يُصْبِحُ إِصْبَاحًا |
| Cities | شهر (جمع) | مُدُنٌ و : مَدِينَةٌ |
| Asia | آسيا | آسِيَا |
| Ego | گھمنڈ | كِبُرٌ |
| To be distinguished | منفرد ہونا، ممتاز ہونا | إِنْفَرَادٌ يَنْفَرِدُ إِنْفَرَادًا |
| Pride | فخر کرنا | إِفْتَخَرٌ يَفْتَخِرُ إِفْتَخَارًا |
| Ships | جہاز (جمع) | مَرَكِبُ و : مَرْكَبٌ |
| Humongous, anchored (Pl.) | بلند و بالا، لنگر انداز (جمع) | رَاسِيَاتٌ و : رَاسِيَةٌ |
| Dock, harbour | بندرگاہ | مِينَاءٌ |
| Guide | رہنمائی کرنا | دَلٌّ يَدُلُّ دَلَالَةً |
| Capital | راجدھانی | عَاصِمَةٌ ج : عَوَاصِمٌ |
| Centuries | صدیاں | قَرْوُنٌ و : قَرْنٌ |
| Corners | کنارے | أَقْطَارٌ و : قُطْرٌ |
| It's not fine. | مناسب نہیں ہے | لَا يَنْبَغِي |
| Pride on each other | باہم فخر کرنا | فَاخَرَ يُفَاخِرُ مُفَاخِرَةً |
| Accept | قبول کرنا، تسلیم کرنا | سَلَمَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا |
| Distinguish | فرق کرنا | فَرَقَ يُفَرِّقُ تَفْرِيقًا |
| Equal | برابر | سَوِيٌّ |
| Supply, provision | فراہمی | تَوْفِيرٌ |
| Treasury | سرکاری خزانہ | الْخَزَائِنُ الرَّسْمِيَّةُ |
| Apart from this | اس کے علاوہ | زِيَادًا عَلَى ذَلِكَ |
| More fortunate | زياده خوش نصیب | أَسْعَدُ (اسم تفضيل) |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Fortune | نَصِيبٌ، حِصْنَةٌ | حَظٌّ ج: حُظُوْظٌ |
| In more quantity | وَافِرٌ مَقْدَارٌ | أَوْفُرُ (اسم تفضيل) |
| Eatables, edibles | خُورَدَنِي أَشْيَا | مَأْكِلٌ و: مَأْكَلٌ |
| Drinkables, beverages | پِينَيْ كِي چِيزِس | مَشَارِبٌ و: مَشَرَبٌ |
| Clothes | لِبَاسٌ (جِمْعٌ) | مَلَابِسٌ و: مَلْبَسٌ |
| Traditions | رَوَاسِيَّتِينَ، رِسُومٌ | تَقَالِيدٌ |
| Fishermen | ماهِي گِير (جِمْعٌ) | سَمَّاكُونَ و: سَمَّاكٌ |
| Full | بُهْرَا ہوا، لِبَالْ ب | مَمْلُوءَةٌ |
| Planetarium | رَصَدَگَاهٌ | مَرْصَدُ السَّيَّارَاتِ وَالنُّجُومِ |
| Professionals | پِيشَّيْ وَرٌ | ذُو الْحِرَفِ |
| Industries | صَنْعَتِينَ | صَنَائِعُ و: صَنْعَةٌ |
| Grandeur | بَلْندَوْ بَالَا | شَامِخَةٌ |
| Gardens | بَا غِيْچَے | بَسَاتِيْنُ و: بُسْتَانٌ |
| Beautiful | بَارِوقَنَ | مُزْدَهِرَةٌ |
| Means of transportation | حَمْلٌ وَنَقلٌ كِي ذَرَاعَ | وَسَائِلُ الْحَمْلِ وَالنَّقلِ |
| Amusement parks | تَفْرِيْجِي مقَامَاتٌ | مَلَاهِي و: مَلْهَى |
| Film industry | فَلَمِي صَنْعَتٌ | صَنَاعَةُ الْأَفَلَامِ |
| Pass | گَزْرَنَا، أُتَارِ چُرْحَادَهُو ہونَا | تَقْلِبَ يَتَقَلَّبُ تَقْلِبًا |
| Distance | دُورِي | الْبُعْدُ |
| Live | زَنْدَگِي گَزَارَنَا | عَاشَ يَعِيشُ عَيْشًا |
| Sister | سَكِي بَهِنَ | شَقِيقَةٌ |
| Devote | نَچْحاوِرَ كَرَنَا | فَدَى يَفْدِي فِدَاءً |
| Defend | دُورَكَرَنَا، دَفَعَ كَرَنَا | دَفَعَ يَدْفَعُ دَفْعًا |
| Until we meet again | پھر ملِيں گے۔ (كلمة رخصت) | إِلَى اللِّقاءِ |

Match the following.

جواب لگائے۔

١. صِل الْعُمُودَيْنِ.

| الْعُمُودُ الثَّانِي | الْعُمُودُ الْأَوَّلُ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ أَتَيْتُ عَمِلْتُ أَحْسَنَ مِنْهَا ذَائِمًا مُسْتَعِدًةً لَا سْتِقْبَالِهِ مَسَارِبُ فِي أَيَّامِ الْمَطَرِ؟ | كَيْفَ أَنْتِ يَا صَدِيقَتِي الْبُحْرِيَّةَ لَا يَضْرُنِي الْمَطَرُ لَا تَنِي فَإِنَّ تَحْتَ أَرْضِي فَلَعَلَّ مُصِيبَتِكِ عَظِيمَةٌ وَيَظْهُرُ أَنَّكِ تَجْهَلِينَ |

٢. ضُعَ عَلَامَةً (✓) مُقَابِلَ الْأَجْوَبَةِ الصَّحِيحَةِ.

صحیح جواب کے سامنے (✓) نشان لگائے۔

Put (✓) mark on correct answers.

١. إِنَّمَا عَاصِمَةُ الْحُكُومَةِ مُنْدُ (i) سِنِينَ

(iv) مُدَّةٍ (iii) قُرُونٍ (ii) فَتْرَةٍ (i) سِنِينَ

٢. وَالْيَوْمَ أَيْضًا أَمْرِي نَافِدٌ فِي جَمِيعِ الْقَطَارِ (i) يَابَانَ

(iv) أَفْرِيْقِيَا (iii) آسِيَا (ii) الْهِنْدِ (i) يَابَانَ

٣. أَنَا أَكْثُرُ مِنْكِ مَالًا وَوَسِيلَةٌ لِتَوْفِيرِ (i) الْخَزَائِنِ

(iv) الْمَرَاكِبِ (iii) الْكَنَائِزِ (ii) الرَّكَائِزِ (i) الْخَزَائِنِ

٤. وَزِيَادًا عَلَى ذَلِكِ إِنَّمَا مُتَصِّلَةٌ بِبَحْرِ (i) الْأَسْوَدِ

(iv) الْكَاهِلِ (iii) الْعَرَبِ (ii) الْأَحْمَرِ (i) الْأَسْوَدِ

Fill in the blanks.

٥. إِنَّمَا الْفَرَاغُ فِيمَا يَأْتِي. درج ذیل خالی جگہ پر کچھی۔

١. وَلَوْلَمْ أَكُنْ لَكُنْتِ (i) لَأَشَكَّ أَنَّكِ

٢. حَظًا وَأَوْفُرُ مَالًا. (ii) لِي ثَقَافَةٌ هِنْدِيَّةٌ


٣. قَدِيمَةٌ وَحَدِيثَةٌ. (i) وَلَيْسَتُ فِيهِمْ

٤. مِنْ أَيِّ نَوْعٍ. (ii) فَقَدْ تَقْلَبْتُ عَلَى كُلِّ مِنَا

٥. وَأَزْمَانٌ. (i) جَمِيعًا

Complete the following webs.

٢. أكمل الشبكات التالية. درج ذيل شبكى خاکے مکمل کیجیے۔



٥. أكتب المفردات للجملة التالية.

درج ذيل جمع کے واحد لکھیے۔

Write singulars of the following plurals.

سماکون ، آثار ، بساتین ، وسائل ،
حروف ، صنائع ، عمارات ، نجوم.

٦. أكتب خمس جمل عن مدينة مومباي في اللغة العربية.

مبھی شہر کے متعلق پانچ جملے عربی میں لکھیے۔

Write five sentences about Mumbai in Arabic.

٧. أكتب خمس جمل عن مدينة دلهی في اللغة العربية.

دہلی شہر کے متعلق پانچ جملے عربی میں لکھیے۔

Write five sentences about Delhi in Arabic.

٨. رتب الكلمات كل سطر لتكون جملة مفيدة وفق الدروس.

ہر سطر کے الفاظ کو سبق کی روشنی میں صحیح ترتیب دے کر بامعنی جملے بنائیے۔

Arrange words of every line according to the lesson to make meaningful sentences.

١. إنك حظاً مالاً ولا شك أوفٌ و ثروةً أسعد

٢. هو كُلُّ شيءٍ ليس المالُ

٣. لي قديمةٌ و حدِيثةٌ هنديةٌ ثقافةٌ ممتازةٌ

٤. وما كان إلا سماءً كينَ أهلكِ بدأيةَ الامرِ في

٩. أكتب الأضداد للكلمات التالية. درج ذيل الفاظ کی ضد لکھیے۔

كُلُّ ، بحرية ، قديمة ، بدأية ، تحت ، بقاء

۱۰. أَكُتبْ مَقَالَةً عَرَبِيًّا مُشَتمِلَةً عَلَى عَشْرِ جُمِلٍ عَلَى الْأَقْلَى حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ.
درج ذيل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”ولَا يَهُ مَهَارًا شَتَرَ“

Grammar

قواعد

القواعد

إِسْمُ التَّفْضِيلِ

اسم تفضيل وہ اسم ہے جس میں دوسروں کے مقابلے میں مصدری معنی زیادہ ہو۔ جیسے **الْعِلْمُ أَنْفَعُ مِنَ الْمَالِ**. یعنی علم مال سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اس جملے میں مال کے مقابلے علم کے زیادہ نفع بخش ہونے کی بات کہی گئی ہے۔
ثلاثی مجرد سے 'أَفْعُلُ'، کے وزن پر اسم تفضیل مذکور بنایا جاتا ہے اور 'فُعْلَى'، کے وزن پر اسم تفضیل مؤنث بنایا جاتا ہے۔ اسم تفضیل مؤنث کی جمع دو طرح سے آتی ہے (فُعَلَيَّاتٌ کے وزن پر اور فُعَلٌ کے وزن پر)۔ اسم تفضیل پر کبھی تنوین نہیں آتی۔ اسم تفضیل عموماً اسم فاعل کا معنی دیتا ہے۔ مثلاً **أَعْلَمُ** (زیادہ جانے والا)، **أَكْبَرُ** (زیادہ بڑا)، **أَشْهَرُ** (زیادہ مشہور)، **أَشْغَلُ** (زیادہ مصروف)۔
اسم تفضیل کی گردان حسب ذیل ہے۔

| جمع | ثنية | واحد | صيغة جنس |
|-----------------------|-------------|----------|----------|
| أَكَابِرُ | أَكْبَرَانِ | أَكْبَرُ | ذكر |
| كُبُرَيَّاتٌ / كُبُرٌ | كُبُرَيَانِ | كُبُرٍ | مؤنث |

إِسْمُ التَّفْضِيلِ Comparative Noun

A form of an adjective indicating a greater degree of the quality that the adjective describes. For eg. **الْعِلْمُ أَنْفَعُ مِنَ الْمَالِ**. meaning: Knowledge is better than wealth. In this example, compared to wealth the quality of being better is stated in knowledge.

Masculine Comparative noun (اسم التفضيل المذكر) is usually formed on the meter of 'أَفْعُلُ' from three literal verbs and feminine Comparative noun is formed on the meter of 'فُعْلَى'. The plural of feminine comparative noun are on two meters (one فُعَلٌ and another فُعَلَيَّاتٌ). Comparative noun will not have nunation. It generally gives the meaning of **أَغْلَمُ** (more knowledgeable), **أَكْبَرُ** (bigger), **أَشْهَرُ** (more famous), **أَشْغَلُ** (busier). Table of التفضيل is given below.

| Form Gender | Singular | Dual | Plural |
|----------------|----------|-------------|-----------------------|
| Masculine | أَكْبَرُ | أَكْبَرَانِ | أَكَابِرُ |
| Feminine | كُبُرٍ | كُبُرَيَانِ | كُبُرَيَّاتٌ / كُبُرٌ |

Complete the following activities.

درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔

اُکمل النشاطاتِ التالية.

۱. اُکتب تعریف اسمِ التفضیل مَعَ الْمِثَلَةِ.

اسمِ تفضیل کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔

Define with examples.

Write the declension of 'اسمِ التفضیل'.

اُکتب تصریف اسمِ التفضیل۔ اسمِ تفضیل کی گردان لکھیے۔

Write the characteristics of 'اسمِ التفضیل'.

اُکتب ممیزاتِ اسمِ التفضیل۔ اسمِ تفضیل کی خصوصیات لکھیے۔

۲. اختر اسمِ التفضیل مِنَ الْجُمَلِ التالية و اُکتبہ آمامَهَا.

مندرجہ ذیل جملوں سے اسمِ تفضیل الگ کر کے لکھیے۔

Choose the given sentences and write them.

۱. وَ صِرْتُ بِذَلِكَ أَجْمَلَ مِنْكِ وَ أَنْظَفَ.

۲. أَنَا أَكْثَرُ مِنْكِ مَالًا وَ وَسِيلَةً.

۳. وَ لَا شَكَّ أَنَّكِ أَسْعَدُ حَظًّا.

۴. وَ لَيْ مَلَاهِي وَ أَكْبُرُ صَنَاعَةُ الْأَفْلَامِ فِي الْهِنْدِ.

اضافی معلومات

إِسْمُ الْبِلَادِ وَ عَاصِمَتُهُ

(Name of country and its capital) ملک کا نام اور اس کی راجدھانی

| عَاصِمَتُهُ | إِسْمُ الْبِلَادِ | عَاصِمَتُهُ | إِسْمُ الْبِلَادِ | عَاصِمَتُهُ | إِسْمُ الْبِلَادِ |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| کوَاٰلَمپُور | مَالِيُزِيَا | جاٰکرٰتا | إِنْدُونِيُسِيَا | نِيُو دِلْهِي | الْهِنْدُ |
| Kualalampur | Malaysia | Jakarta | Indonesia | New Delhi | India |
| الْكُوِيْتُ | الْكُوِيْتُ | أَبُو ظَبِي | الْأَمَارَاثُ | الرِّيَاضُ | السَّعُودِيَّةُ |
| Kuwait | Kuwait | Abudhabi | Emirates | Riyadh | Saudi Arabia |
| الرَّبَاطُ | الْمَغْرِبُ | عَمَانُ | الْأُرْدُنُ | الْمَنَامَةُ | الْبَحْرَيْنِ |
| Rabat | Morocco | Amman | Jordan | Manama | Bahrain |
| مَسْقَطُ | عُمَانُ | الْقَاهِرَةُ | مِصْرُ | بَيْرُوتُ | لُبَانُ |
| Masqat | Oman | Cairo | Egypt | Beirut | Lebanon |

| عَاصِمَةُ الْبَلَادِ | إِسْمُ الْبَلَادِ | عَاصِمَةُ الْبَلَادِ | إِسْمُ الْبَلَادِ | عَاصِمَةُ الْبَلَادِ | إِسْمُ الْبَلَادِ |
|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| مَانِيَّلا | الْفِلِيبِينُ | الدُّوَّحَةُ | قَطَرُ | الْقُدُسُ | فِلَسْطِينُ |
| Manila | Philippine | Doha | Qatar | Al-Quds | Palestine |
| سِيُولُ | كُورِيا الْجُنُوبِيَّةُ | بِكِينُ | الصِّينُ | طُوْكِيُو | الْيَابَانُ |
| Seoul | South Korea | Beijing | China | Tokyo | Japan |
| بَانْكُوكُ | تَايَالَندُ | كَاتْمَانُدُو | نِيُپَالُ | هَانَوِي | فِيئُتَامُ |
| Bankok | Thailand | Katmandu | Nepal | Hanoi | Vietnam |
| تَايِيَّه | تَايُوانُ | مَالِيه | جُزُرُ الْمَالَدِيفُون | سِنْغَافُورَة | سِنْغَافُورَة |
| Taipei | Taiwan | Male | Maldives | Singapore | Singapore |
| انْقَرَةُ | تُرْكِيَا | يَرِيفَانُ | أَرْمِنِيَا | كُولُمْبُو | سِيرِى لَانْكَا |
| Ankara | Turkey | Yerevan | Armania | Colombo | Srilanka |
| تَبْلِيُسِي | جُورْجِيَا | بُودَابِيسْتُ | هَنْغَارِيَا | وَكْتُورِيَا | هُونُغْ كُونُغُ |
| Tbilisi | Gorgia | Budapest | Hungary | Victoria | Hong Kong |
| أَسْتَانَةُ | كَازَاخِسْتَانُ | بُوينَسَ آيَرسُ | الْأَرْجَنْتِينُ | بَرازِيلِيَا | الْبَرازِيلُ |
| Astana | Kazakhstan | Buenos Aires | Argentina | Brasilia | Brazil |
| وَيْلِنْغْتُونُ | نيُوزِلَنْدَا | أُوْتاوا | كِنْدَا | بُوْغُوتَا | كُولُومُبِيَا |
| Wellington | New Zealand | Ottawa | Canada | Bogota | Colombia |
| كِيُوبَتَاؤُونُ | جُنُوبُ افْرِيْقِيَا | بُورْتُ لُويُسُ | مُورِيشِيُوسُ | نَيْرُوْبِي | كِينِيَا |
| Cape Town | South Africa | Port Louis | Mauritius | Nairobi | Kenya |
| كَانْبِرَا | أَسْتَرَالِيَا | مَاسُكُو | رُوسِيَا | لَندَنُ | بِرِيطَانِيَا |
| Canberra | Australia | Moscow | Russia | London | Britain |
| مَدْرِيدُ | إِسْبَانِيَا | هَلْسِنْكِي | فِنْلَنْدَا | وَاشِنْطَنُ | أَمْرِيْكَا |
| Madrid | Spain | Helsinki | Finland | Washington | America |
| أَمْسِتَرْدَامُ | هُولَنْدَا | إِسْلَامَ آبَادُ | بَاكِسْتَانُ | دَبْلِن | إِيرَلَنْدَا |
| Amsterdam | Holland | Islamabad | Pakistan | Dublin | Ireland |
| صُوفِيَا | بَلْغَارِيَا | كَابُلُ | أَفْغَانِسْتَانُ | بَارِيُسُ | فَرَنْسَا |
| Sofia | Bulgaria | Kabul | Afghanistan | Paris | France |

رَئِيْسُ الْأَحْرَارِ مَوْلَانَا مُحَمَّد عَلِي جَوْهَر

ابتدائية

۷۱۸۵ء کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد پورے ملک پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا اور ملک کی مختلف ریاستوں کو انگریز حکومت کے ماتحت کر دیا گیا۔ ان ریاستوں میں ایک ریاست رام پور بھی تھی جہاں مولانا محمد علی جوہر کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے ایک بھائی شوکت علی تھے۔ دونوں بھائیوں کی تربیت ان کی والدہ آبادی بانویگم نے کی تھی۔ پیش نظر سبق میں ہم مولانا محمد علی جوہر کی زندگی، ان کی تعلیم و تربیت اور جنگ آزادی میں ان کی بے مثال جدوجہد کے بارے میں پڑھیں گے۔



مَوْلَانَا مُحَمَّد عَلِي جَوْهَر كَانَ جَوْهَرًا حَقِيقِيًّا وَ بَطَالًا
هِنْدِيًّا وَ قَائِدًا سِيَاسِيًّا وَ صُحْفِيًّا نَابِغًا. حَارَبَ الْإِسْتِعْمَارَ
الْبِرِّيْطَانِيَّ بِجَسَارَةٍ عَظِيمَةٍ.

وُلِدَ مُحَمَّد عَلِي جَوْهَر فِي الْعَاشرِ مِنْ دِيْسِمْبَرِ عَامَ الْأَلْفِ وَ
ثَمَانِيَّةٍ وَ ثَمَانِيَّةٍ وَ سَبْعِينَ م. (۱۸۷۸) بِمَدِينَةِ رَامَفُورَ بِولَايَةِ
أُتْرَا بَرَادِيْش. وَ اشْتَغَلَ فِي مَجَالِ الصَّحَافَةِ وَ السِّيَاسَةِ، وَ
تَرَعَرَعَ تَحْتَ رِعَايَةِ أَخِيهِ الْكَبِيرِ مَوْلَانَا شَوْكَت عَلِي غُوْهَر
الشَّهِيْرِ بِـ(آَسَدِ الْهِنْدِ).

دَرَسَ الْعُلُومَ الْعَصْرِيَّةَ فِي الْمَدْرَسَةِ الْحُكُومِيَّةِ، ثُمَّ وَاصَّلَ دِرَاسَتَهُ بِجَامِعَةِ عَلِي غَرِيْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ، ثُمَّ
رَحَلَ إِلَى بِرِّيْطَانِيَا لِلِّدَرَاسَاتِ الْعُلِيَا، وَ نَالَ الشَّهَادَةَ فِي التَّارِيخِ الْحَدِيثِ مِنْ جَامِعَةِ آكْسِفُورْدِ بِلَنْدَنَ. وَ
قَدْ عَيْنَ مُدِيْرًا لِلْقِسْمِ الْتَّعْلِيمِيِّ بِمَدِينَةِ رَامَفُورَ، ثُمَّ اشْتَغَلَ بِالصَّحَافَةِ وَ الْكِتَابَةِ. وَ كَتَبَ بِاللُّغَتَيْنِ: الْأَرْدِيَّةِ
وَ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ، وَ فِي عَامِ الْأَلْفِ وَ تِسْعِيَّةٍ وَ مِائَةٍ وَ وَاحِدٍ وَ ثَلَاثِينَ م. (۱۹۳۱) أَصْدَرَ صَحِيفَةً بِاسْمِ 'كَامْرِيد'
(بالإنجليزية)، وَ فِي عَامِ الْأَلْفِ وَ تِسْعِيَّةٍ وَ مِائَةٍ وَ وَاحِدٍ وَ ثَلَاثِينَ م. (۱۹۳۱) أَصْدَرَ صَحِيفَةً بِاسْمِ 'هَمْدَرَد'، (بالأردي)
وَ تَوَلَّى رِئَاسَةَ تَحرِيرِهَا. ثُمَّ أَصْدَرَ صَحِيفَةً 'هَمْدَرَد'، (بالإنجليزية)، وَ بَعْدَ عُودَتِهِ مِنْ بِرِّيْطَانِيَا أَصْدَرَ صَحِيفَةً 'رَفِيق'، (بالأردي) الَّتِي امْتَازَتْ بِمَقاَلَاتِهَا النَّادِرَةِ.

وَ قَدْ سَجَنَتْهُ الْحُكُومَةُ الْإِنْجِلِيزِيَّةُ بِسَبَبِ مَقاَلَاتِهِ ضِدَّهَا وَ لِكِنَّهُ مَا اعْتَدَرَ إِلَى الْحُكُومَةِ الْبِرِّيْطَانِيَّةِ
قَطُّ، بَلْ إِنَّهُ أَحَبَّ السِّجْنَ مُقَابِلَ الْاعْتِدَارِ. وَ بَذَلَ مُحَمَّد عَلِي جَوْهَر جُهُودًا عَظِيمَةً لِاِسْتِقْلَالِ الْهِنْدِ.

إِنَّ مَوْلَانَا مُحَمَّدَ عَلَيْهِ جَوْهَرَ عَمَلَ فِي الْمَجَالَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ وَالتَّعْلِيمِيَّةِ، وَعَمَلَ عَلَى تَوْسِيعِ الْجَامِعَةِ عَلَيْهِ غَرَهُ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَكَانَ مِنَ الْمُؤْسِسِينَ لِلْجَامِعَةِ الْمِلِّيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَامِ الْأَلْفِ وَتِسْعِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ م (١٩٢٠).

الْقَى مَوْلَانَا مُحَمَّدَ عَلَيْهِ جَوْهَرَ خُطْبَةً مُجْلِحَةً فِي مُؤْتَمِرِ الطَّاولَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ الْمُنْعَقِدِ بِلَندَنَ فِي عَامِ الْأَلْفِ وَتِسْعِ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ م. (١٩٣٠) وَقَالَ أَنْتَاءَ خُطْبَتِهِ: ”لَا أَعُودُ إِلَى الْهِنْدِ حَتَّى تُحَرِّرُوهَا وَإِلَّا يُحْفَرُ قَبْرِيُّ بِهَذَا الْمَوْضِعِ.“

فَكَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ كَلِمَةً حَرِيَّةً إِيمَانِيَّةً فِي الْمُؤْتَمِرِ، وَلَكِنْ يَا أَسْفًا! قَدْ فَشَلَ الْمُؤْتَمِرُ وَمَا وَصَلَ غَایَتَهُ.

كَانَ رَئِيسُ الْأَحْرَارِ مَوْلَانَا مُحَمَّدَ عَلَيْهِ جَوْهَرَ يُعَدُّ مِنْ أَبْرَزِ سَاسَةِ الْهِنْدِ فِي التَّارِيْخِ الْحَدِيثِ. وَقَدْ نَالَ مَكَانَةً رَفِيعَةً لَدِي النَّاسِ. إِنَّ مُؤْلَفَاتِهِ مَعْدُودَةٌ وَلِكُنَّهَا نَادِرَةٌ قِيمَةً. وَفِي الرَّابِعِ مِنْ يَانِيْرَ عَامِ الْأَلْفِ وَتِسْعِ مِائَةٍ وَوَاحِدٍ وَثَلَاثِينَ م. (١٩٣١) تُوْقَى مَوْلَانَا مُحَمَّدَ عَلَيْهِ جَوْهَرَ بِلَندَنَ عِنْدَمَا كَانَ مُشَارِكًا فِي مُؤْتَمِرِ الطَّاولَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ وَبِنَاءً عَلَى وَصِيَّتِهِ نُقِلَ جُثْمَانُهُ إِلَى فِلِسْطِينَ وَدُفِنَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الْمُبَارَكِ.

| Glossary | الكلمات ومعانيها |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Leader of freemen, i.e. important freedom fighter | آزادلگوں کا سردار، مراد جنگ آزادی کا اہم لیدر |
| Original | اصلی |
| Hero, brave | ہیرو، بہادر |
| Politician | سیاست داں |
| Journalist | صحافی |
| Capable | ماہر، لائق |
| Wage a war | جنگ کرنا |
| British colonialism | برطانوی نوآبادکاری |
| Year | سال |

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Be occupied | مشغول ہونا | إشتغلَ يَشْتَغِلُ إِشْتَغَالًا |
| Nurture | نشوونما پانا، فروغ پانا | تَرَعَّرَ يَتَرَعَّرُ تَرَعُّرًا |
| Guard | گنگانی | رِعَايَةٌ |
| Modern education | جدید علوم | الْعُلُومُ الْعَصْرِيَّةُ |
| Continue | جاری رکھنا | وَاصْلَ يُوَاصِلُ مُوَاصَلَةً |
| Travel | سفر کرنا | رَحْلَ يَرْحَلُ رِحْلَةً |
| Higher education | اعلیٰ تعلیم | الدِّرَاسَاتُ الْعُلِّيَا |
| Obtain | پانا، حاصل کرنا | نَالَ يَنَالُ نَيْلًا |
| Degree | سندر | الشهادةُ |
| Be appointed | مقرر کیا جانا | عِينَ يُعَيَّنُ تَعْيِينًا |
| Director, manager | ڈائرکٹر، منیجر | مُدِيرٌ |
| Department | شعبہ | قِسْمٌ |
| Issue | جاری کرنا | أَصْدَرَ يُصْدِرُ إِصْدَارًا |
| Take responsibility | ذمہ داری سنبھالنا | تَوَلَّ يَتَوَلَّ تَوَلِّيَا |
| Chief editorship | مدیر اعلیٰ کا منصب | رِئَاسَةُ التَّحْرِيرِ |
| Return | واپسی | عَودَةٌ |
| Be eminent | ممتاز ہونا | إِمْتَازٌ يَمْتَازُ إِمْتِيَازًا |
| Best articles | بہترین مضمایں | الْمَقَالَاتُ النَّادِرَةُ |
| Imprison | قید کرنا | سَجَنَ يَسْجُنُ سَجْنًا |
| Apologize | معذرت کرنا | إِعْتَدَارٌ يَعْتَدِرُ إِعْتِدَارًا |
| Like | چاہنا، پسند کرنا | أَحَبَ يُحِبُّ إِحْبَابًا |
| Prison | قید خانہ، جیل | سِجْنٌ ج: سُجُونٌ |
| Spend | خرچ کرنا | بَذَلَ يَبْذُلُ بَذْلًا |
| Freedom | آزادی | إِسْتِقْلَالٌ |
| Expansion | وسعت | تَوْسِيعٌ |

| | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Founder | بَانِي | مُؤْسِسٌ |
| Deliver a speech | تقرير كرنا | الْقَوْيِ يُلْقِي إِلْقَاءً (خُطْبَةً) |
| Amazing speech | گرج دار تقریر | خُطْبَةُ مُجَلِّجلَةٍ |
| Round Table Conference | گول میز کانفرنس | مُؤْتَمِرُ الطَّاولَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ |
| Grant freedom, to free | آزاد کرنا | حَرَرَ يُحرِرُ تَحرِيرًا |
| Dug out | کھودا جانا | حُفِرَ يُحْفَرُ حَفْرًا |
| Place | جگہ، مقام | مَوْضَعٌ |
| Alas | ہائے افسوس! | يَا أَسْفَا ! |
| Fail | نام کام ہونا | فَشِيلَ يَفْشُلُ فَشْلًا |
| Objective, aim | انہما، مقصد | غَايَهٌ |
| Be counted | شمار کیا جانا | عُدَّ يُعَدُ عَدًا |
| More eminent | زیادہ نمایاں | أَبْرَزُ (اسم تفضیل) |
| Politicians | سیاست داں (جمع) | سَاسَةٌ وَ سِيَاسِيٌّ |
| Near | پاس، نزدیک | لَدِي |
| Few, selected | چند | مَعْدُودَةٌ |
| Die | وفات پانا | تُوفِيَ يُتَوَفَّى تَوْفِيَا |
| Participant | شرکت کننده | مُشارِكٌ |
| According to his will | ان کی وصیت کے مطابق | بِنَاءً عَلَى وَصِيَّتِهِ |
| Dead body | لغش | جُشَمَانٌ |



Fill in the blanks.

درج ذیل خالی جگہ پر کیجیے۔

۱. إِمَلاً الفَرَاغِ فِيمَا يَاتِي.

۲. حَارَبَ الْأَسْتَعْمَارَ بِجَسَارَةٍ عَظِيمَةٍ.

۳. نَالَ الشَّهَادَةَ فِي التَّارِيخِ مِنْ جَامِعَةٍ آكُسْفُورُدَ بِلنْدَنَ.




۴. لَا أَعُودُ إِلَى الْهِنْدِ حَتَّى

۵. كَانَ رَئِيسُ الْأَحْرَارِ مَوْلَانَا مُحَمَّدَ عَلَيْ جَوَهَرٍ يُعَدُّ مِنْ أَبْرَزِ الْهِنْدِ.

٢. أكْمِل الشَّبَكَاتِ التَّالِيَةَ.

درج ذیل خاکے مکمل کیجیے۔

Complete the following webs.



٣٠. إِمَلَأُ الْفَرَاغَ بِالْعَامِ الصَّحِيْحِ.

صحیح سنہ لکھ کر درج ذیل خالی جگہ نویسیجئے۔

Fill in the blanks with appropriate year.

١. وُلِدَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ جَوْهَرٌ فِي الْعَاشِرِ مِنْ دِيْسِمْبَرِ عَامٍ
 ٢. وَفِي عَامٍ أَصْدَرَ صَحِيفَةً بِاسْمِ 'كَامْرِيد'.
 ٣. كَانَ مِنَ الْمُؤَسِّسِينَ لِلْجَامِعَةِ الْمُلِلِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَامٍ
 ٤. الْقَى جَوْهَرٌ خُطْبَةً مُجَلِّحَةً فِي مُؤْتَمِرِ الطَّاولَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ بِلَندَنَ الْمُنْعَقِدِ فِي عَامٍ
 ٥. وَفِي الرَّابِعِ مِنْ يَانِيَرِ عَامٍ تُوْفَى مَوْلَانَا مُحَمَّدَ عَلَيْهِ جَوْهَرٌ بِلَندَنَ.
 ٦. اُكْتُبِ الصِّفَةُ الْمُنَاسِبَةُ بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَّةِ وَفُقِّ الدَّرْسِ.
سبق کی روشنی میں درج ذیل الفاظ کی مناسب صفات لکھئے۔

Write relative adjectives of the given words from the lesson.

- | | | | | | |
|-------|--------------|----|-------|---------------|----|
| | صُحْفَى | .٢ | | بَطَلٌ | .١ |
| | الْعُلُومُ | .٣ | | جَسَارَةُ | .٣ |
| | التَّارِيْخُ | .٤ | | الدِّرَاسَاتُ | .٥ |

٥. حَوْلِ الْمَعْرِفَةِ إِلَى النَّسْكَرَةِ.

درج ذيل معرفة الفاظ كوكره بنائيے۔

مِثَالٌ : الْأَسْتَعْمَارُ - إِسْتَعْمَارٌ

الصَّحَافَةُ ، الْعُلُومُ ، الشَّهَادَةُ ، الْلَّيْلُ

وَضْحَ الْجُمْلَةِ الْأَتِيَّةِ فِي لُغَتِكَ.

٦.

درج ذيل جملے کی اپنی زبان میں وضاحت کیجیے۔

”لَا أَغُوْدُ إِلَى الْهِنْدِ حَتَّى تُحَرِّرُوهَا وَ إِلَّا يُحَفِّرُ قَبْرِيُّ بِهَذَا الْمَوْضِعِ.“

٧. أَكْتُبْ مَقَالَةً عَرَبِيَّةً مُشَتمِلَةً عَلَى عَشْرِ جُمْلٍ عَلَى الْأَقْلَى حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ.

درج ذيل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔



Explain the following statement in your language.



Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”أَسْتَاذِي“

اضافي معلومات

الأَرْقَامُ

عربی میں ہزار سے بڑے عدد کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہزار، پھر سیکڑہ، پھر اکائی اور پھر دہائی بولی جاتی ہے۔ مثلاً

الْفُ وَ تِسْعُ مِائَةٍ وَ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ

ایک ہزار نو سو اکیس

سال کہتے وقت ابتداء میں لفظ 'عام' یا 'سنة' کا اضافہ کیا جاتا ہے اور پورے ہند سے کواس کا مضاف الیہ بنادیا جاتا ہے۔ مثلاً

عَامٌ / سَنَةُ الْفِ وَ تِسْعُ مِائَةٍ وَ وَاحِدٌ وَعِشْرِينَ (سنہ ۱۹۲۱)۔ ذیل میں چند اعداد نمونے کے طور پر دیے جا رہے ہیں۔

١٠٠١ الْفُ وَ وَاحِدٌ

١١٢١ الْفُ وَ مِائَةٌ وَ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ

١٢٤١ الْفُ وَ مِائَتَانِ وَ وَاحِدٌ وَ أَرْبَعُونَ

١٣٦٣ الْفُ وَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَ ثَلَاثُ وَ سِتُّونَ

١٤٨٥ الْفُ وَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَ خَمْسٌ وَ ثَمَانُونَ

١٥٠١ الْفُ وَ خَمْسٌ مِائَةٍ وَ وَاحِدٌ

١٦١٣ الْفُ وَ سِتُّ مِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ

١٧٣٥ الْفُ وَ سَبْعُ مِائَةٍ وَ خَمْسٌ وَ ثَلَاثُونَ

١٠١٢ الْفُ وَ إِثْنَا عَشَرَ

١١٣٢ الْفُ وَ مِائَةٌ وَ إِثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ

١٢٥٢ الْفُ وَ مِائَتَانِ وَ إِثْنَانِ وَ خَمْسُونَ

١٣٧٤ الْفُ وَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَ أَرْبَعٌ وَ سَبْعُونَ

١٤٩٦ الْفُ وَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَ سِتٌّ وَ تِسْعُونَ

١٥٠٢ الْفُ وَ خَمْسٌ مِائَةٍ وَ إِثْنَانِ

١٦٢٤ الْفُ وَ سِتُّ مِائَةٍ وَ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ

١٧٤٦ الْفُ وَ سَبْعُ مِائَةٍ وَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ

| | | | |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| ألف و ثمانين مائة و ثمان و ستمائون | ١٨٦٨ | ألف و ثمانين مائة و ثلاثة و خمسون | ١٨٥٣ |
| ألف و تسع مائة و تسعمائون | ١٩٩٠ | ألف و تسع مائة و تسعة و سبعون | ١٩٧٩ |
| الفان و واحد | ٢٠٠١ | الفان | ٢٠٠٠ |
| الفان و عشر | ٢٠١٠ | الفان و خمس | ٢٠٠٥ |
| الفان و مائة و إثنا عشر | ٢١٢٢ | الفان و مائة و أحد عشر | ٢١١١ |
| الفان و مائتان و أربع و أربعين | ٢٢٤٤ | الفان و مائتان و ثلاثة و ثلاثون | ٢٢٣٣ |
| الفان و ثلاثة مائة و ستمائون | ٢٣٦٦ | الفان و ثلاثة مائة و خمس و خمسون | ٢٣٥٥ |
| الفان و أربع مائة و ثمان و ثمانون | ٢٤٨٨ | الفان و أربع مائة و سبعة و سبعون | ٢٤٧٧ |
| الفان و ستمائة | ٢٦٠٠ | الفان و خمس مائة و تسعة و تسعمائون | ٢٥٩٩ |
| الفان و ستمائة و ثلاثة عشر | ٢٦١٣ | الفان و ستمائة و إثنان | ٢٦٠٢ |
| الفان و ثمان مائة و سبعة و خمسون | ٢٨٥٧ | الفان و ثمان مائة و ستمائة و أربعون | ٢٨٤٦ |
| الفان و تسعة مائة و تسعة و سبعون | ٢٩٧٩ | الفان و تسعة مائة و ثمان و ستمائون | ٢٩٦٨ |
| ثلاثة آلاف و أحد عشر | ٣٠١١ | ثلاثة آلاف و واحد | ٣٠٠١ |
| ثلاثة آلاف و مائة و ثلاثة و عشرون | ٣١٢٣ | ثلاثة آلاف و مائة و إثنا عشر | ٣١١٢ |
| ثلاثة آلاف و مائتان و خمس و أربعون | ٣٢٤٥ | ثلاثة آلاف و مائتان و أربع و ثلاثة و ثلاثون | ٣٢٣٤ |
| ثلاثة آلاف و ثلاثة مائة و سبعة و ستمائون | ٣٣٦٧ | ثلاثة آلاف و ثلاثة مائة و ستمائة و خمسون | ٣٣٥٦ |
| ثلاثة آلاف و أربع مائة و تسعة و ثمانون | ٣٤٨٩ | ثلاثة آلاف و أربع مائة و ثمان و سبعون | ٣٤٧٨ |
| ثلاثة آلاف و خمس مائة و تسعة و تسعمائون | ٣٥٩٩ | ثلاثة آلاف و خمس مائة و تسعمائون | ٣٥٩٠ |
| ثلاثة آلاف و ستمائة و إثنان و عشرون | ٣٦٢٢ | ثلاثة آلاف و ستمائة و أحد عشر | ٣٦١١ |
| ثلاثة آلاف و ستمائة و إثنان و عشرون | ٣٧٤٤ | ثلاثة آلاف و سبعة مائة و ثلاثة و ثلاثة و ثلاثون | ٣٧٣٣ |
| ثلاثة آلاف و ثمان مائة و ستمائة و ستمائون | ٣٨٦٦ | ثلاثة آلاف و ثمان مائة و خمس و خمسون | ٣٨٥٥ |
| ثلاثة آلاف و تسعة مائة و ثمان و ثمانون | ٣٩٨٨ | ثلاثة آلاف و تسعة مائة و سبعة و سبعون | ٣٩٧٧ |
| أربعة آلاف و تسعة | ٤٠٠٩ | أربعة آلاف و واحد | ٤٠٠١ |
| أربعة آلاف و مائتان و إثنان و عشرون | ٤٢٢٢ | أربعة آلاف و مائة و أحد عشر | ٤١١١ |
| أربعة آلاف و أربع مائة و أربع و أربعون | ٤٤٤٤ | أربعة آلاف و ثلاثة و ثلاثة و ثلاثة و ثلاثون | ٤٣٣٣ |
| خمسة آلاف | ٥٠٠٠ | أربعة آلاف و تسعة مائة و تسعة و سبعون | ٤٩٩٩ |

جَامِعَةُ الْأَزْهَرِ

ابتدائية

‘تَعْلِيم’ سے آتی ہے اقوام میں بیداری۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تعلیم انسان کو انسانیت کی معراج تک لے جاتی ہے۔ اسی میں عزت و عظمت پوشیدہ ہے۔ جو قویں تعلیم کی اہمیت کو تصحیح کی ہیں وہ عروج کو پہنچتی ہیں اور ان کے افراد ترقی کے اعلیٰ منازل طے کرتے ہیں۔ مبارکباد کے حقدار ہیں وہ ادارے جو اس فن کے اعلیٰ فرائض انجام دے کر تعلیم یافتہ افراد پیدا کرتے ہیں۔

مذکورہ سبق میں دنیا کی ایک قدیم یونیورسٹی جامعہ ازہر کی تعلیمی خدمات کو پیش کیا جا رہا ہے جہاں کے فارغین دنیا کے چھپے میں تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

لَمَّا فَتَحَ مِصْرَ جَوَهْرُ الصِّقْلِيُّ بِأَمْرِ الْمُعْزِ لِدِينِ اللَّهِ الْفَاطِمِيِّ فِي أَخِرِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجْرِيِّ ، عَمَرَ مَدِينَةُ الْقَاهِرَةِ وَ أَسَسَ فِيهَا مَسْجِدًا وَاسِعًا عَظِيمًا . وَ أَنْشَأَ فِيهِ مَدْرَسَةً يَاتِيهَا الطُّلَّابُ مِنْ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ، يَتَلَقَّوْنَ عِلْمَ اللُّغَةِ وَ عِلْمَ الدِّينِ .

أَخَذَ يَزِدَادُ هَذَا الْمَسْجِدُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنِّ عِمَارَةً وَ فَخَامَةً ، وَ بُنِيَتْ فِيهِ أَرْوَقَةٌ خَاصَّةٌ بِكُلِّ قَبْلٍ مِنَ النَّاسِ يُقِيمُونَ فِيهَا لِطَلَبِ الْعِلْمِ . وَ مَا زَالَ يَعْلُو مَقَامُهُ وَ يَزِيدُ طَلَابُهُ إِلَى أَنْ أَصْبَحَ أَكْبَرَ مَدْرَسَةً وَ جَامِعَةً إِسْلَامِيَّةً يُعَلَّمُ فِيهَا سَائِرُ الْعِلُومِ ، وَ لَمْ يَكُنِ الْطُلَّابُ بِجَامِعَةِ الْأَزْهَرِ مِصْرِيُّونَ وَ حُدُّوْنُ بَلْ كَانَ بَابُهَا مَفْتُوحًا لِجَمِيعِ النَّاسِ . وَ مَا زَالَتْ كَذَلِكَ بَيْنَ ارْتِقاءِ وَ انْحِطَاطِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ بَشَّا وَالِي مِصْرَ وَ أَمَّنَ الْبِلَادَ . فَاخَذَتْ جَامِعَةُ الْأَزْهَرِ تَسْتَعِيْدُ زَهْوَهَا وَ بَلَغَ عَدْدُ طَلَابِهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةَ آلَافِ طَلَابٍ . الْأَزْهَرُ مُؤَسَّسَةٌ عَظِيمَةٌ . لَهَا تَارِيْخٌ عَرِيقٌ . وَ لَهَا مَحَاوَلَاتٌ جَادَّةٌ فِي نَشْرِ الْعِلُومِ وَ الْمَعَارِفِ .

تَقَعُ جَامِعَةُ الْأَزْهَرِ فِي الْجُنُوبِ الشَّرْقِيِّ مِنْ مَدِينَةِ الْقَاهِرَةِ . وَ لَقَدْ تَخَرَّجَ فِي الْأَزْهَرِ آلَافُ مِنَ الدُّعَاءِ

الْمُخْلِصِينَ وَ الْعُلَمَاءِ الْبَارِعِينَ وَ الْأُدَباءِ النَّابِغِينَ الَّذِينَ خَدَمُوا إِلِيْسَامَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ حَافَظُوا عَلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ وَ الدِّينِ ، مِنْهُمُ الْفَقِيْهُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدُ وَ سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ الْعَزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَ



ابنُ الْحَاجِبِ وَابنُ حَجَرٍ وَالسُّيُوطِي وَالشَّاطِبِي وَغَيْرُهُمْ.

وَقَدْ تَطَوَّرَتْ جَامِعَةُ الْأَرْهَرِ وَلَمْ تُعَدْ جَامِعَةً دِينِيَّةً فَقَطْ بِلِ امْتَدَّ نَسَاطُهَا إِلَى عُلُومِ الْعَصْرِ وَأَنْسَاتُ بِهَا كُلِّيَّاتِ الْلِّطَبِ وَالْهِنْدَسَةِ وَالصَّيْدَلَةِ وَالْعُلُومِ. وَسَتَظُلُّ جَامِعَةُ الْأَرْهَرِ مَنَارَةً عَالِيَّةً مِنْ مَنَارَاتِ الإِسْلَامِ.

Glossary

الفاظ ومعانی

الكلمات والمعاني

| | | |
|------------------|-----------------|---------------------|
| Conquer | فتح كرنا | فتح يفتح فتحا |
| Century | صدى | قرن ج: قرون |
| Establish | بسانا | عمر يعمّر تعميما |
| Lay foundation | بنياد ركنا | أسس يؤسس تأسيسا |
| Build | قام كرنا، بانا | أنشاً ينشي إنشاء |
| Come | آنا | أتى يأتي إتيانا |
| Corners | گوش | أنحاء و: نحو |
| Attain | حاصل كرنا، پانا | تلقى يتلقى تلقيا |
| Be aplenty | زيادة هونا | ازداد يزداد ازيدادا |
| Glory, greatness | عظمت | فخامة |
| Be constructed | بنایا جانا | بني يبني بناء |
| Hostels | ہاٹل (جمع) | أروقة و: رواق |
| Kind, type | قتم | قبيل |
| Reside, stay | رهنا، قيام كرنا | أقام يقيم إقامة |
| Elevate | بلند هونا | علا يعلو علو |
| Be abundant | زيادة هونا | زاد يزيد زيادة |
| Be taught | پڑھایا جانا | علم يعلم تعليمما |
| All, everyone | تمام | سائر |
| Open | کھلا هوا | مفتوح |
| Governor | حاكم، امير | وال ج: ولاة |

| | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Make peaceful | پر امن بنانا | امن یوْمٌ تَّامِينًا |
| Reinstate | بحال کرنا | إسْتَعَادَ يُسْتَعِيدُ إسْتَعَادَةً |
| Bloom, elegance | بہار، خوش نمائی | رَهْوٌ |
| Ten thousand | دس ہزار | عَشْرَةُ آلَافٍ |
| Institute, academy | ادارہ | مُؤَسَّسَةٌ |
| Firmly established, rooted | راست، مضبوط | غَرِيقٌ |
| Serious efforts | سبحیدہ کوششیں | مُحاوَلَاتٌ جَادَةٌ |
| Spread, broadcast | پھیلانا | نَسَرَ يَنْسُرُ نَسْرًا |
| Sciences | علوم | مَعَارِفٌ |
| Be situated | واقع ہونا | وَقَعَ يَقَعُ وَقَعًا |
| South east | جنوب مشرق | الْجُنُوبُ الْشَّرْقِيُّ |
| Graduate | فارغ ہونا | تَخْرُجَ يَتَخَرَّجُ تَخْرُجًا (فِي) |
| Preacher, conveyor | مبلغ، داعی | دُعَاءً وَ دَاعِ |
| Master | ماہر | بَارِعُونَ وَ بَارِعٌ |
| Expert | ماہر، کامل | نَابِعُونَ وَ نَابِعٌ |
| Guard, secure | حافظت کرنا | حَافَظَ يُحَافِظُ مُحَافَظَةً |
| Develop | ترقی پانा | تَطَوُّرٌ يَتَطَوَّرُ تَطَوُّرًا |
| Be extended | دراز ہونا | إِمْتَدَّ يَمْتَدُ إِمْتَدَادًا |
| Activity | سرگرمی | نَشَاطٌ ح: نَشَاطَاتٌ |
| Colleges | کالج | كُلِّيَّاتٌ وَ كُلِّيَّةٌ |
| Engineering | انجینئرنگ | هَنْدَسَةٌ |
| Pharmacy | فارمی | صِيدَلَةٌ |
| Sciences | سائنس | الْعُلُومُ |
| Cling | باتی رہنا | ظَلَّ يَظِلُّ ظِلًا |
| Minaret | مینار | مَنَارَةٌ ح: مَنَارَاتٌ |

Complete the following web.

درج ذيل خالٍ كمل كيحيى.

١. أكمل الشبكة التالية.

أُنشَاثُ بِالْأَزْهَرِ كُلِّيَّاتٌ لِ...



Match the following.

جوزيائ لگائے۔

٢. صل العمودين.

| العمود الثاني | العمود الأول |
|----------------|--------------|
| مِصْرِيُونَ | الدُّعَاءُ |
| النَّابِغُونَ | الْعُلَمَاءُ |
| الْمُخْلِصُونَ | الْأَدَباءُ |
| الْبَارِعُونَ | طَلَابُ |

Fill in the blanks.

درج ذيل خالي ججه پر کيحيى۔

٣. إملأ الفراغ فيما يأتي.

١. لَمَّا فَتَحَ جَوَهْرُ الصِّقْلِيُّ.

٢. وَ اَنْشَأَ فِيهِ مَدْرَسَةً الطَّلَابُ مِنْ اَنْحَاءِ الْعَالَمِ.

٣. اَخَذَ هَذَا الْمَسْجِدُ مِنْ ذِلِكَ الْحِينِ عِمَارَةً وَ فَخَامَةً.

٤. الْأَزْهَرُ مُؤَسَّسَةٌ عَظِيمَةٌ. لَهَا عَرِيقٌ.

٥. يَقْعُدُ الْأَزْهَرُ فِي الْجُنُوبِ الشَّرْقِيِّ مِنْ مَدِينَةِ

٣

رتّب الكلمات كل سطر ليكون جملة مفيدة وفق الدروس.

ہر سطر کے الفاظ کو سبق کی روشنی میں صحیح ترتیب دے کر با معنی جملے بنائے۔

Arrange words of every line according to the lesson to make meaningful sentences.

١.

لَمَّا جَوَهْرُ لِدِينِ اللَّهِ فَتَحَ مِصْرَ بِأَمْرِ الْمُعِزِّ الصِّقْلِيِّ

٢.

مَسْجِدًا وَ اَسَسَ وَاسِعًا فِيهَا عَظِيمًا

٣.

مِنْ ذِلِكَ الْحِينِ هَذَا الْمَسْجِدُ عِمَارَةً وَ فَخَامَةً يَزُدُّ اَخَذَ

٤.

فِي الْجُنُوبِ الشَّرْقِيِّ الْأَزْهَرُ مَدِينَةُ الْقَاهِرَةِ يَقْعُدُ مِنْ


٥. حلّ اللُّغَزِ الْأُتْمَى.

الإِشَارَةُ:

اُپ سے یچے : بلڈ کی جمع

دائیں سے بائیں : لڑکے کی عربی

درج ذیل معملاں کیجیے۔



٦. أَكْتُبِ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ لِلْمَاضِي التَّالِي.

درج ذیل فعل ماضی کے فعل مضارع لکھیے۔

فتح ، جاء ، أَخَذَ ، بَلَغَ ، عَلِمَ ، خَرَجَ

٧. أَكْتُبِ الْمُفَرَّدَاتِ لِلْجَمْعِ التَّالِيَةِ.

درج ذیل جمع کے واحد لکھیے۔

آلاف ، محاولات ، معارف ، علوم ، كليات ، منارات

٨. أَكْتُبُ مَقَالَةً عَرَبِيَّةً مُشَتَّمِلًا عَلَى عَشْرِ جُمِلٍ عَلَى الْأَقْلَى حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ.

درج ذیل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”فضيلة العلم“

Grammar

قواعد

القواعد

الجملة الإسمية والجملة الفعلية

اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اس میں دو جزو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ مثال: **العلم نور**. علم نور ہے۔

اس میں **العلم** مبتدا ہے اور **نور** خبر ہے۔ دونوں اسم حالتِ رفع میں ہیں۔ عام طور پر مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تعداد اور جنس میں مبتدا اور خبر یکساں ہوتے ہیں۔ یعنی مبتدا مذکرو واحد ہو تو خبر مذکرو واحد ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر مبتدا مونث واحد ہو تو خبر مونث واحد ہوتی ہے اور اگر مبتدا مذکر جمع ہو تو خبر مذکر جمع ہو گی۔ البتہ اگر مبتدا غیر ذی عقل کی جمع ہو تو خبر واحد مونث ہوتی ہے۔

فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ عام طور پر جملہ فعلیہ میں پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول ہوتا ہے۔ مثال: **نصر حامد خالد**۔ (حامد نے خالد کی مدد کی)

اپر کے جملے میں **نصر فعل** ہے، **حامد فاعل** ہے اور **خالد مفعول** ہے۔

Nominal Sentence and Verbal Sentence

الجملة الإسمية والجملة الفعلية

The sentence that begins with a noun is called **Nominal sentence** (الجملة الإسمية). It consists of subject (مبتدا) and predicate (خبر). Eg. **العلم نور**. (Knowledge is light.)

In the above sentence subject and predicate both are in nominative case (حال رفع). Generally the subject would be definite and predicate (خبر) will be indefinite. Subject and predicate are used in same case in quantity and gender. ie. If subject is masculine singular then the predicate will also be masculine and singular. If subject is feminine singular then the predicate will also be feminine singular. If the subject is masculine plural then the predicate will also be masculine plural. If the subject is feminine plural then the predicate will also be feminine plural (Only in this case the predicate can also be feminine singular).

If the subject is plural form of object (not a person) then the predicate will be singular feminine.

A sentence that begins with a verb is called **verbal sentence** (الجملة الفعلية). Generally verbal sentence consists of verb (فعل), doer (فاعل) and object (مفعول به).

Eg. **نصر حامد خالدا**. (Hamid helped Khalid.)

In the above sentence, **حَامِد** is verb, **نصر** is doer and **خَالِدًا** is object.

(Questions)

سوالات

الأسئلة

Complete the following activities.

درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔

★ اُکمل النشاطات التالية.

١. اُکتب تعریف الجملة الإسمية.

جملہ اسمیہ کی تعریف لکھیے۔

٢. اُکتب خواص الجملة الإسمية.

جملہ اسمیہ کی خصوصیات لکھیے۔

٣. اُکتب تعریف الجملة الفعلية.

جملہ فعلیہ کی تعریف لکھیے۔

٤. کوئن خمس جملہ اسمیہ فی العربیہ.

عربی میں پانچ جملہ اسمیہ بنائیے۔

٥. کوئن خمس جملہ فعلیہ فی العربیہ.

عربی میں پانچ جملہ فعلیہ بنائیے۔

Define 'الجملة الإسمية'.

Write main features of 'الجملة الإسمية'

Define 'الجملة الفعلية'.

Make five nominal sentences in Arabic.

Make five verbal sentences in Arabic.

فولا - عِيدُ الشِّيرَانِ


ابتدائية

زراعی کام کاج کے لیے کسانوں کا سب سے اہم وسیلہ بیل ہے۔ اس کے ذریعے کسان اپنی کھیتی کے تمام چھوٹے بڑے کام کرتے ہیں۔ بیل چلانے سے لے کر چارہ لانے، لے جانے تک اور جہاں کوئی مشینی گاڑی نہیں پہنچ سکتی وہاں بیل گاڑی سے آمد و رفت کا کام لیا جاتا ہے۔ کسان اپنے بیلوں کی صحت اور چارہ پانی کا خاص خیال رکھتا ہے۔ سال میں ایک دن ایسا منایا جاتا ہے جس میں بیلوں سے کوئی کام نہیں لیا جاتا ہے۔ وہ دن خاص طور پر ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے جس کو مہاراشٹر میں 'پولا' کہتے ہیں۔ اس سبق میں اسی تہوار کی معلومات دی گئی ہے۔ ہماری ریاست کے مختلف اضلاع میں پولا خاص طور پر منایا جاتا ہے۔

يُحَتَّفُ عِيدُ 'فولا'، بِولَاهِيَةِ مَهَارَاشْتَرا فِي الْخِرَيُومُ 'شَرَاؤنْ'، وَ الْفَلَاحُونَ يَخْرُجُونَ بِالشِّيرَانِ مِنْ بِيُوتِهِمْ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. يَحْتَاجُ الْفَلَاحُ إِلَى الشِّيرَانِ فِي كُلِّ شُؤُونِ الزِّرَاعَةِ. وَ هُمْ يَحْرُثُونَ الْأَرْضَ بِالشِّيرَانِ لِمَهْدِهَا. تُسْتَخَدِّمُ الشِّيرَانِ لِكَسْرِ كُرَاثٍ تُرَابِيَّةٍ، وَ لِلْبَذْرِ فِي الْحَقْلِ وَ فَصْلِ الْحَبَّاتِ عَنِ السَّنَابِلِ. وَ الشِّيرَانُ تَحْمِلُ الْأَنْقَالَ وَ تَجْرُّ الْعَرَبَاتِ. وَ هَكَذَا يُشَغِّلُ الْفَلَاحُونَ الشِّيرَانَ دَائِمًا. الْثُورُ خَيْرٌ رَفِيقٌ لِلْفَلَاحِ. وَ الْفَلَاحُونَ يَرْعَوْنَهَا رَعَايَةً كَامِلَةً. وَ لَا إِظْهَارٌ حُبِّهِمْ لَهَا يَحْتَفِلُونَ بِعِيدِ الشِّيرَانِ فِي يَوْمٍ مُعِينٍ مِنَ السَّنَةِ، وَ يُسَمِّيُّ هَذَا الْعِيدُ 'فولا'، وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَا تُسْتَخَدِّمُ الشِّيرَانُ.

وَ بِمِنَاسَبَةِ عِيدِ 'فولا'، تُغَسِّلُ الشِّيرَانُ بِغَايَةِ مِنَ الدَّلْكِ، ثُمَّ تُزَيِّنُ وَ تُحَلِّي وَ تُرَكِّبُ سَبَائِكَ جَدِيدَةً مِنَ الْحَدِيدِ بِأَطْلَافِهَا وَ تُخْطِطُ عَلَى أَجْسَامِهَا أَنْوَاعَ مِنَ الزُّهُورِ بِمُخْتَلِفِ الْأُلوَانِ، وَ تُصْبِغُ قُرُونُهَا وَ تُوْضِعُ بُرُودَةً مُلَوَّنَةً عَلَى ظُهُورِهَا وَ تُعَلِّقُ قِلَادَةً مِنَ الصَّدَفِ وَ قِلَادَةً مِنَ الْجَرَسِ فِي أَعْنَاقِهَا. وَ تُقْلَدُ قُرُونُهَا بِعُقُودٍ مِنَ الزُّهُورِ. وَ بَعْضُ الْفَلَاحِينَ يَرْبِطُونَ حَلَقَاتِ الْجَلَاجِلِ بِأَرْجُلِهَا. وَ تُطَعَّمُ الشِّيرَانُ خُبْزًا مَمْلُوَّةً بِالْعَدَسِ وَ السَّمَنِ وَ السُّكَّرِ الْأَحْمَرِ يُقَالُ لَهُ 'بُورَنْ بُولَى'. وَ يُجْمِعُ جَمِيعُ الشِّيرَانِ فِي سَاحَةٍ خَارِجِ الْقُرْيَةِ حَيْثُ يُقَامُ الْمَعْرِضُ لِعِيدِ 'فولا'، وَ يَأْتِي كُلُّ الْأَطْفَالِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ مِنَ الْقُرْيَةِ لِزِيَارَةِ هَذَا





الْمَعْرِضِ. وَ تُقَامُ الدَّكَائِنُ لِلْعِبِ وَ الْحَلَاوَى وَ غَيْرِهَا لِهَذَا الْمَعْرِضِ. وَ تُوْجَدُ هُنَاكَ أَنْوَاعٌ مِّنَ الْأَرَاجِيْحِ وَ الْمُسَرَّحَيَّاتِ. وَ الْجَمِيعُ يَتَمَتَّعُونَ بِهَا تَمَتُّعًا تَامًا. وَ فِي الْمَسَاءِ يَنْعَقِدُ السِّبَاقُ بَيْنَ الشَّيْرَانِ وَ يُسَمَّى هَذَا السِّبَاقُ 'فُولَا بُور'، وَ تُمْنَحُ الْجَائِزَةُ لِصَاحِبِ الشَّوْرِ الْفَائِزِ فِي هَذَا السِّبَاقِ.

Glossary

الفاظ ومعانی

الكلمات والمعاني

| | | |
|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| Bulls | بَيْل (جمع) | شِيرَانٌ و: ثُورٌ |
| Be celebrated | منا ياجانا | أَحْتَفِلَ يُحْتَفَلُ اِحْتِفالًا |
| Farmers | كَسَان (جمع) | فَلَاحُونَ و: فَلَاحٌ |
| Be in need | ضرورت مند ہونا | إِحْتَاجَ يَحْتَاجُ اِحْتِيَاجًا |
| Matter | امر، معاملہ | شُؤُونٌ و: شَأْنٌ |
| Farming | کھبٹی، زراعت | زِرَاعَةٌ |
| Plough | ہل چلانا | حَرَثَ يَحْرُثُ حَرْثًا |
| Level | ہمواری | مَهْدٌ |
| Be utilized | استعمال کیا جانا | أُسْتُخْدِمَ يُسْتَخَدِمُ إِسْتِخْدَاماً |
| Break | توڑنا | كَسْرٌ |
| Lump/clods of soil | مٹی کے ڈھیلے | كُرَاتُ تُرَابِيَّةٌ |
| Seed | ثَجْم، نَجْ | الْبَدْرُ |
| Farm | کھیت | حَقْلٌ ج: حُقُولٌ |
| Separate | علیحدہ کرنا | فَصْلٌ |
| Grains | دانے | حَبَّاتٌ و: حَبَّةٌ |
| Spikes | بالياس، خوشے | سَنَابِلٌ و: سُنبُلٌ |
| Carry | اٹھانا، لادنا | حَمَلَ يَحْمِلُ حَمْلًا |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Load, heavy things | بُوْجَه (جمع)، وزنِی چیزیں | أَثْقَالٌ وَ ثِقْلٌ |
| Pull, drag | كھینچنا | جَرَّ يَجْرُ جَرَا |
| Cart, vehicle | گاڑیاں | عَرَبَاتٌ وَ عَرَبَةٌ |
| Be used | استعمال میں لایا جانا | شُغْلٌ يُشَغِّلُ تَشْغِيلًا |
| Expression | ظاہر کرنا، جتنا | إِظْهَارٌ |
| Affection | محبت | حُبٌ |
| Celebrate | منانا | إِحْتِفَالٌ يَحْتِفِلُ اِحْتِفالًا |
| Be cleansed | نہلا لایا جانا | غُسِّلٌ يُغَسِّلُ تَغْسِيلًا |
| Thoroughly | خوب، باریکی سے | بِغَایَةٍ |
| Scrubbing | رگڑنا | ذَلَكُ |
| Be decorated | سجاویا جانا | زِينَنْ يُزَيَّنُ تَزْيِينًا |
| Be decorated with jewellery | زیور پہننا لایا جانا | حُلَّلٌ يُحَلِّي تَحْلِيلًا |
| Be nailed | ٹھونکنا جانا | رُكَّبٌ يُرَكَّبُ تَرْكِيبًا |
| U-shaped plates for hoof | (کھرکی) پتیاں | سَبَائِكُ وَ سَبِيكَةٌ |
| Iron | لوہا | حَدِيدٌ |
| Hoofs | کھر، هُم (جمع) | أَظْلَافٌ وَ ظِلْفٌ |
| Drew lines | لکیریں کھینچنی جانا | خُطِّطَ يُخَطِّطُ تَخْطِيطًا |
| Types | اقسام | أَنْوَاعٌ وَ نَوْعٌ |
| Flowers | پھول (جمع) | رُزْهُورٌ وَ رَزْهُرٌ |
| Be coloured | رنگ دیا جانا | صُبْغٌ يُصْبَغُ صَبْغاً |
| Horns | سینگ (جمع) | قُرُونٌ وَ قَرْنٌ |
| Be placed | رکھا جانا | وُضَعٌ يُوضَعُ وَضْعًا |
| Colourful rag | رنگ برلنگی چادر | بُرْدَةٌ مُلَوَّنةٌ |
| Back (Pl.) | پیٹھ (جمع) | ظُهُورٌ وَ ظَاهِرٌ |
| Be hanged | لٹکایا جانا | عُلَقَ يُعلَقُ تَعلِيقًا |

| | | | |
|------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------|
| Neckband | | ہار | قِلَادَةٌ ج: قَلَائِدٌ |
| Garland | گلے میں پہنانا | | قَلَدْ يُقْلِدُ تَقْلِيْدًا |
| Flower chain, garlands | ہار، لڑیاں | | عُقُودٌ و: عِقْدٌ |
| Tie | باندھنا | | رَبَطَ يَرْبِطُ رَبْطًا |
| Rings | کڑے | | حَلَقَاتٌ و: حَلَقَةٌ |
| Ghungroo, ankle bells | گھنگرو | | جَالَجِلُ و: جُلْجُلٌ |
| Legs | پیر | | أَرْجُلٌ و: رِجْلٌ |
| Be served | کھلایا جانا | | أُطْعَمَ يُطْعَمُ إِطْعَامًا |
| Bread | روٹی | | خُبْزٌ ج: أَخْبَازٌ |
| Dal, cereal | DAL | | عَدْسٌ |
| Ghee | گھی | | سَمَنٌ |
| Jaggery | گڑ | | سُكَّرٌ أَحْمَرٌ |
| Ground | میدان | | سَاحَةٌ ج: سَاحَاتٌ |
| Village | گاؤں، دیہات | | الْقُرْيَةُ ج: الْقُرَى |
| Visit | مشابہہ | | زِيَارَةٌ |
| Fair, carnival | میلہ | | مَعْرِضٌ |
| Shops | دکان | | دَكَانِيْنُ و: دُكَانٌ |
| Sweets | محٹایاں | | حَلَوَى و: حَلْوَى |
| Swings | چھولے | | أَرْجِيْحُ و: أَرْجُوْحَةٌ |
| Plays, dramas | تماشے، ڈرامے | | مَسْرَحِيَّاتٌ و: مَسْرَحَيَّةٌ |
| Enjoy | لطف اندوز ہونا | | تَمَتَّعَ يَتَمَّتَعُ تَمَتُّعًا |
| Be organised | منعقد ہونا | | إِنْقَادٌ يَنْقَدِدُ إِنْعَقَادًا |
| Competition | دوڑ، مقابلہ | | سِبَاقٌ |
| Be rewarded | عطای کیا جانا، دیا جانا | | مُنَحَ يُمْنَحُ مَنْحًا |
| Award | انعام | | حَائِزَةٌ ج: حَوَائِزٌ |
| Winner | کامیاب ہونے والا | | فَائِرٌ |





Fill in the blanks.

١. إِمَلَأُ الْفَرَاغَ فِيمَا يَأْتِي . درج ذيل خالي جملہ پر کیجیے۔

١. الْفَلَّاحُونَ يَخْرُجُونَ بِالشِّيرَانِ مِنْ بُيُوتِهِمْ عِنْدَ طُلُوعِ وَهُمْ يَحْرُثُونَ الْأَرْضَ لِمَهْدِهَا.
٢. وَالشِّيرَانُ تَحْمِلُ الْأَثْقَالَ وَتَجْرُ وَهَكَذَا يُشَغِّلُ الشِّيرَانَ دَائِمًا.
٣. الْشَّوْرُ خَيْرٌ لِلْفَلَّاحِ
٤. صِلِ الْعَمُودَيْنِ .
٥. جُوْزِيَانَ لَگَيْتے۔

Match the following.

| الْعَمُودُ الثَّانِي | الْعَمُودُ الْأَوَّلُ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خُبْرًا مَمْلُوءًا بِالْعَدَسِ وَ السَّمَنِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ لِلْعَبِ وَ الْحَلَاوَى لِعِيدٍ (فُولَاءِ) حَلَقَاتِ الْجَلَاجِلِ | يَرِبِطُونَ وَ تُطْعَمُ الشِّيرَانُ حَيْثُ يُقَامُ الْمَعْرِضُ وَ يَأْتِي كُلُّ الْأَطْفَالِ وَ تُقَامُ الدَّكَاكِينُ |

٣. أَكْتُبِ الْمُفَرَّدَاتِ لِلْجُمُوعِ الْأَتِيَةِ.

درج ذيل جمع کے واحد لکھیے۔

الْفَلَّاحُونَ ، الشِّيرَانُ ، بُيُوتُ ، حَبَّاثُ ، أَظْلَافُ ،

أَجْسَامُ ، أَنْوَاعُ ، الزُّهُورُ ، الْوَانُ ، النِّسَاءُ

أَكْتُبِ الْمُضَافَ إِلَيْهِ الْمُنَاسِبَ لِلْمُضَافِ الْأَتِيِّ.

درج ذيل مضاف کے لیے مناسب مضاف ایسے لکھیے۔

Write appropriate noun governed (المضاف إلیه) for governing noun (المضاف). (المضاف إلیه)

مثال : طُلُوعُ الْفَجْرِ

١. وِلَائِهُ

٢. شُئُونُ

٣. حَلَقَاتُ

٥. أَكْتُبُ الْحَرْفَ الْجَارَ الْمُنَاسِبَ فِي الْمَكَانِ الْخَالِيِّ مِمَّا يَأْتِي.

درج ذيل میں سے صحیح حرف جارکھ کر خالی جگہ پر لکھیجیے۔

Fill in the blanks with appropriate prepositions given below.

(مِنْ ، بِ ، فِي ، عَلَى)


١. الشِّيرَانِ

٢. أَجْسَامِهَا

٣. الْحَقْلِ

٤. بُوْتَهُمْ

٦. أَكْمِلِ الشَّبَكَاتِ التَّالِيَةَ. درج ذیل خاکے کمل کیجیے۔



٧. أَكْتُبُ رَأِيَكَ عَلَى الْمَقْوِلَةِ التَّالِيَةِ فِي صَوْءِ الدَّرْسِ فِي لُغَتِكَ.

درج ذیل جملے پر سبق کی روشنی میں اپنی زبان میں اظہار خیال کیجیے۔

Write about the following statement in your own language.

”الثُّورُ خَيْرٌ رَفِيقٌ لِلْفَلَاحِ“

۸۔ اُرْسُمْ دَائِرَةً حَوْلَ أَشْيَاءَ تُسْتَعْمَلُ لِتَزْيِينِ الشَّوْرِ.
بیل کی آرائش کے لیے استعمال کی جانے والی چیزوں کے گرد دائرة بنائیے۔

Encircle things used for decoration of bull.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| س | ط | س | م | ق |
| ب | ة | ق | ل | ح |
| ی | ل | ا | ط | خ |
| ک | د | و | ق | ع |
| ة | د | ر | ب | ی |

۹۔ أَكْتُبْ مَقَالَةً عَرَبِيَّةً مُشَتمِلَةً عَلَى عَشْرِ جُمَلٍ عَلَى الْأَقْلَى حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ.
درج ذیل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”عِيدُ الْفِطْرِ“

Grammar

قواعد

القواعد

الفِعْلُ الْمَعْرُوفُ وَ الْفِعْلُ الْمَجْهُولُ

جس فعل کا فاعل مذکور ہواں کو فعل معروف کہتے ہیں اور جس فعل کا فاعل مذکور نہ ہواں کو فعل مجهول کہتے ہیں۔
فعل مجهول میں فاعل نہیں ہوتا مگر اس کی جگہ مفعول بہ اس کا قائم مقام ہوتا ہے جو نائب فاعل کہلاتا ہے۔ نائب فاعل بھی ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے۔ فعل مجهول کی تذکیر و تانیث اور جمع و تشینی کے لیے نائب فاعل کا لاحاظ کیا جاتا ہے۔
ماضی مجهول اور مضارع مجهول بنانے کا قاعدہ:

(۱) مااضی معروف کے پہلے حرفا کو ضمہ اور آخر سے پہلے حرفا کو کسرہ دے کر مااضی مجهول بناتے ہیں جیسے ضرب زید حامداً سے ضرب حامد۔ یہ قاعدہ ثلاثی مجرد کا ہے۔

ثلاثی مزید کے مااضی میں آخر سے پہلے حرفا کو ضمہ اور باقی متحرک حروف کو ضمہ دیا جاتا ہے لیکن مااضی کا آخری حرفا ہر حال میں مفتوح رہتا ہے۔ مثال: اِحْتَفَلَ سے اُحْتَفِلَ ، اِسْتَخَدِمَ سے اُسْتَخْدِمَ

(۲) مضارع معروف کے پہلے حرفا کو ضمہ اور آخر سے پہلے حرفا کو فتح دے کر مضارع مجهول بناتے ہیں۔ جیسے یَضْرِبُ زید حامداً سے یُضْرِبُ حامد۔ یہ قاعدہ ثلاثی مجرد کا ہے۔

ثلاثی مزید کے مضارع میں پہلے حرفا کو ضمہ اور آخر سے پہلے حرفا کو فتح دے کر مضارع مجهول بناتے ہیں۔

مثال: يَحْتَفِلُ سے يُحْتَفِلُ ، يَسْتَخِدِمُ سے يُسْتَخِدِمُ

الفعل المعروف و الفعل المجهول

In Arabic, the verb used in the active voice is called 'الفعل المعروف' where the subject (doer) of the action is known.

The verb used in the passive voice is called 'الفعل المجهول' where only the object of the action is known (i.e. the subject (doer) is not mentioned). In passive phrase the object is always a noun and in nominative case (مرفوع). In passive phrase the gender and quantity of passive verb follows the object (i.e. if object is masculine the passive verb will be masculine and if the object is feminine then the passive verb will be feminine. If the object is singular then the passive verb will be singular, and for dual object the passive verb will be dual and for plural object the passive verb will be plural.)

Formation of Passive Past Tense and Passive Aorist Tense:

- 1) The passive past verb is formed from the active past verb by changing the vowel signs in the past perfect tense (الماضي). The first radical takes ُ (ضمة), the second radical takes ـ (كسره). The third radical remains unchanged. This method is for ثلثي مجرّد.
Eg. From ضرب حامدٌ passive will be ضربَ زيدٍ حامدًا.

In ثلثي مزيد, in the past active verb, second last radical takes ـ (كسره) and all the other radicals are given ُ (ضمة) except the last radical as the last radical always has ـ (فتحه). Eg. From احتفلَ passive will be استَخدَمَ

- 2) In the imperfect tense (aorist, المضارع) the prefix sign of imperfect takes ُ (ضمة), the second radical takes ـ (فتحه). The last radical remains unchanged. This method is for يُضربُ حامدٌ. Eg. From يَضْرِبُ زَيْدٍ حَامِدًا.
- In ثلثي مزيد, in the imperfect active verb the first radical takes ُ (ضمة) and the second last radical takes ـ (فتحه). The last radical remains unchanged.

ذيل ماضي مجہول اور مضارع مجہول کی گردانیں درج ہیں۔

The declensions of passive past tense and passive imperfect tense is given below.

| ماضي مجہول کی گردان | جنس | واحد | مُشَنِّي | جمع |
|------------------------|----------|----------|----------|---------|
| | Gender | Singular | Dual | Plural |
| غائب | مُذَكَّر | ضرب | ضرباً | ضربُوا |
| | مُؤَنَّث | ضربت | ضربتاً | ضربنَ |
| حاضر | مُذَكَّر | ضربت | ضربتماً | ضربُتم |
| | مُؤَنَّث | ضربت | ضربتماً | ضربُتنَ |
| متكلّم | مُذَكَّر | ضربت | ضربناً | ضربنا |
| | مُؤَنَّث | ضربت | ضربناً | ضربنا |

| جُمْعٌ Plural | مُشَنْتِي Dual | وَاحِدٌ Singular | جِنْسٌ Gender | مضارع مجهول کی گردان |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| يُضْرِبُونَ | يُضْرِبَانِ | يُضْرِبُ | مُذَكَّرٌ | غائب Third Person |
| يُضْرِبَنَ | تُضْرِبَانِ | تُضْرِبُ | مُؤَنَّثٌ | |
| تُضْرِبُونَ | تُضْرِبَانِ | تُضْرِبُ | مُذَكَّرٌ | حاضر Second Person |
| تُضْرِبَنَ | تُضْرِبَانِ | تُضْرِبِينَ | مُؤَنَّثٌ | |
| نُضَرْبُ | نُضَرْبُ | أُضَرْبُ | مُذَكَّرٌ | متكلم First Person |
| نُضَرْبُ | نُضَرْبُ | أُضَرْبُ | مُؤَنَّثٌ | |

ذیل میں ماضی مجهول اور مضارع مجهول کی گردانیں درج ہیں۔

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| نُصْرَت | نُصْرَنَ | نُصْرَاتَا | نُصْرَتُ | نُصْرُوا | نُصْرَا | نُصْرَ | ماضی مجھول |
| نُصْرَنَا | نُصْرَتُ | نُصْرُتَنَ | نُصْرُتَمَا | نُصْرُتِ | نُصْرُتُمْ | نُصْرُتَمَا | |
| سُمِعْتَ | سُمِعْنَ | سُمِعَتَا | سُمِعْتُ | سُمِعُوا | سُمِعَا | سُمِعَ | ماضی مجھول |
| | سُمِعْنَا | سُمِعْتَنَ | سُمِعْتَمَا | سُمِعْتُمْ | سُمِعْتُمَا | سُمِعْتُمَا | |
| تُعْرَفُ | يُعْرَفَنَ | تُعْرَفَانِ | تُعْرَفُ | يُعْرَفُونَ | يُعْرَفَانِ | يُعْرَفُ | مضارع مجھول |
| | نُعْرَفُ | أُعْرَفُ | تُعْرَفَنِ | تُعْرَفَيْنَ | تُعْرَفُونَ | تُعْرَفَانِ | |

Questions

سوالات

الْأَسْئِلَةُ

۱. أَكْتُبْ تَعْرِيفَ الْفِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَجْهُولِ. فعل معروف اور فعل مجھول کی تعریف لکھیے۔

Define Active voice (الفعل المعروف) and Passive voice (الفعل المجهول).

۲. كَوْنُ خَمْسَ جُمَلٍ مِنَ الْفِعْلِ الْمَجْهُولِ فِي الْعَرَبِيَّةِ.

عربی میں فعل مجھول کے پانچ جملے بنائیے۔



مُهِمَّةٌ شَانِدَرَ اِيَان

ابتدائية

زمانہ قدیم سے خلا انسان کے لیے تجسس کا سبب بنا ہوا ہے۔ خلا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک بیش قیمت تحقیق میں مصروف ہیں۔ فی زمانہ خلائی مکنائوں نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لی ہے۔ ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارہ (ISRO) نے سیپلائٹ، خلائی طیارہ اور مصنوعی سیارہ بنانے اور داغنے کے میدان میں ملک کو خود فیل بنا دیا ہے۔ مندرجہ ذیل سبق میں اسر و کی ایک عظیم خلائی مہم چندریاں ۲-۲ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔

عِلْمُ الْفَلَكِ مِنْ أَقْدَمِ الْعِلْمِ وَالْأَكْتَشَافِ الْإِنْسَانُ. وَ فَدَ أَخَذَ يَنْمُو نُمُوا مُتَتَابِعاً مَعَ تَقدُّمِ الْحَضَارَةِ. كُلُّمَا تَقدُّمَ الْعِلْمُ قَدَّمَ لِلإِنْسَانِ مُخْتَرَعَاتٍ مَا كَانَ فِي حُلْمٍ أَحَدٍ مِنْ قَبْلِهِ.

الْيَوْمَ أَصْبَحَ الْقَمَرُ مَرْكَزَ التَّنَافُسِ بَيْنَ الدُّولِ الْكُبُرَى لِلنَّشَاطِ الْفَضَائِيِّ لِأَنَّهُ تُوْجَدُ بِهِ أَنْوَاعُ كَثِيرَةٌ مِنَ الْمَوَارِدِ الْفَرِيْدَةِ يُمْكِنُ لِلْبَشَرِيَّةِ أَنْ تُنَمِّيَهَا وَ تَسْتَخْدِمَهَا. مَثَلًا غَازُ الْهِلْيُومُ - ۳

الْمُوْجُودُ فِي تُرْبَةِ الْقَمَرِ يَكُونُ اسْتِخْدَامُهُ كَوْفُودٌ نَظِيفٌ وَ آمِنٌ لِلْأَنْدِمَاجِ التَّوَوِيِّ الْجَدِيدِ.

فِي عَامِ الْأَلْفِ وَ تِسْعِ مِائَةٍ وَ تِسْعُ وَ سِتِّينِ مِيلَادِيِّ (۱۹۶۹) أُرْسِلَتِ الْمَرْكَبَةُ الْفَضَائِيَّةُ الْأَمْرِيْكِيَّةُ 'ابولو' (Apollo) بِالِإِنْسَانِ إِلَى الْقَمَرِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ وَ هَكَذَا نَجَحَ الْإِنْسَانُ بِاسْتِكْشافِ الْقَمَرِ نَجَاحًا بَاهِرًا.

أَمَّا 'شَانِدَرَ اِيَان' - ۱، هِي مُهِمَّةٌ فَضَائِيَّةٌ هِنْدِيَّةٌ قَامَتْ بِهَا الْمُنَظَّمَةُ الْهِنْدِيَّةُ لِبُحُوثِ الْفَضَاءِ (ISRO)۔

كَانَ هَدْفُهَا وَضْعَ قَمَرٍ صِنَاعِيٍّ حَوْلَ الْقَمَرِ لِلتَّجَرِيبِ فِي اسْتِكْشافِ الْفَضَاءِ.

شَانِدَرَ اِيَان فِي الْلُّغَةِ السَّنْسُكُرِيَّةِ تَعْنِي 'الْمَرْكَبَةُ الْقَمَرِيَّةُ'. كَانَ إِطْلَاقُهَا فِي الْوَاحِدِ مِنْ أَكْتُوبُرِ فِي عَامِ الْفَيْنِ وَ ثَمَانِ مِيلَادِيِّ (۲۰۰۸) مِنْ مَرْكَزِ سِرِيِّ هَارِيِّ كُوتَا الْفَضَائِيِّ بِوَلَايَةِ آنَدَهَرَا بَرَادِيش. بَلَغَتْ مِيزَانِيَّتُهَا ثَمَانِينَ مِلْيُونَ دُولَارٍ. قَامَتْ شَانِدَرَ اِيَان - ۱ بِتَجَارِبٍ وَ عَمَلِيَّاتٍ لِلْبَحْثِ عَنِ الْمِيَاهِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَوَادِ الْكِيمِيَّاتِيَّةِ.

ثُمَّ بَعْدَ مُرُورِ أَحَدِ عَشَرَ عَامًا أَطْلَقَتِ الْهِنْدُ فِي الثَّانِيِّ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ يُولُيوُ عَامَ الْفَيْنِ وَ تِسْعَ عَشَرَ مِيلَادِيِّ (۲۰۱۹) مَرْكَبَةَ شَانِدَرَ اِيَان - ۲ مِنْ مَرْكَزِ سِتِّيُّشِ دَهْوَانِ الْفَضَائِيِّ الْوَاقِعِ بِوَلَايَةِ آنَدَهَرَا بَرَادِيش. وَ قَدْ حَمَلَتْ شَانِدَرَ اِيَان - ۲ مَعَهَا فَخْرَ الْأَمَّةِ وَ تَطْلُعَاتِ الْعُلَمَاءِ الْهِنْدِيِّينَ. لَوْ نَجَحَتْ هَذِهِ

المُحاوَلَةُ لِاصْبَحَتِ الْهِنْدُ دُولَةً رَابِعَةً تَنْجُحٌ فِي اِيْصَالِ مَرْكَبَةٍ فَضَائِيَّةٍ إِلَى الْقَمَرِ بَعْدَ رُوسِيَا وَالْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ وَالصِّينِ.

إِشْتَمَلَتْ شَانِدَرَايَان - ٢ عَلَى ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ : أَوْلَاهَا الصَّارُوخُ الْمُسَمُّ بِيَاهُوبَلِيٍّ وَثَانِيَهَا الْمِسْبَارُ الَّذِي لُقِبَ بِوْكَرَمَ وَثَالِثَهَا الْمَرْكَبَةُ الْجَوَالَةُ الَّتِي سُمِّيَتْ بِبَرَاغِيَانَ . تَمَيَّزَتْ شَانِدَرَايَان - ٢ بِكُلُّفَتِهَا الْفَلِيلِةِ حَيْثُ كُلِّفَتْ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ مِلْيُونَ دُولَارٍ فَقَطَ .

إِنَّ شَانِدَرَايَان - ٢ قَفْزَةً كُبْرَى فِي مَجَالِ التِّكْنُوُلُوْجِيَا الفَضَائِيَّةِ لِلْهِنْدِ وَنُقطَةً جَدِيدَةً لِلْاخْتِرَاعِ الْعِلْمِيِّ وَالتِّكْنُوُلُوْجِيِّ .

وَالْجَدِيدُ بِالذِّكْرِ أَنَّ إِسْرَوْ، اِنْتَخَبَتْ مِنْ وَلَيَّنَا الْغَرِيزَةَ مَهَارًا اِشْتَرَى عَالِمًا طَبِيعِيًّا لِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ . وَهُوَ الدُّكْتُورُ سَيِّدُ شَفِيعُ الدِّينِ الَّذِي كَانَ ذَا خُبُرَةً وَاسِعَةً فِي هَذَا الْمَجَالِ .



| | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Mission Chandrayan | چندريان مشن | مُهِمَّةُ شَانِدَرَايَان |
| Older | زياده پرانا | أَقْدَمُ (أَسْمٌ تَفْضِيلٌ) |
| Discover | کھوچ کرنا | إِكْتَشَفَ يَكْتَشِفُ إِكْتِشَافًا |
| Develop | نشوونما پانا، بڑھانا | نَمَّا يَنْمُو نُمَّوا |
| Continuously | مسلسل | مُتَتَابِعاً |
| Development | ترقی | تَقدُّمٌ |
| Civilisation | تهذیب | حَضَارَةٌ |
| Discoveries | ایجادات | مُخْتَرَعَاتٌ |
| Dream | خواب | حُلْمٌ ج: أَحَلَامٌ |
| Competition | مسابقات | الْتَّنَافُسُ |
| Countries | ممالک | دُولَّ و: دَوْلَةٌ |
| Activities | سرگرمیاں | نَشَاطٌ و: نَشَاطٌ |
| Spatial | خلائی | الْفَضَائِيَّةُ |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Be found | پایا جانا | وُجَدٌ يُوجَدُ وِجْدَانًا |
| Types | اقسام | أَنْوَاعٌ وَ نَوْعٌ |
| Resources | وسائل | الْمَوَارِدُ وَ وِرْدٌ |
| Unique (F.) | منفرد، انوکھی | الْفَرِيدَةُ |
| Be possible | ممکن ہونا | أَمْكَنْ يُمْكِنْ إِمْكَانًا |
| Mankind, humanity | إنسانيت | الْبَشَرِيَّةُ |
| Develop | نشوونما کرنا | نَمْيٌ يُنَمِّي تَنْمِيَةً |
| Use | استعمال کرنا، کام میں لانا | إِسْتَخْدَمٌ يَسْتَخْدِمُ إِسْتَخْدَمًا |
| Helium gas | ہیلیم گیس | غَازُ الْهِلَيْوُمُ |
| Soil | مٹی | الْتُّرْبَةُ |
| Fuel | ایندھن | وَقْدُ |
| Clean | صاف سترہا | نَظِيفٌ |
| Safe, peaceful | محفوظ، پُر امن | آمِنٌ |
| Nuclear infusion | جوہری انشقاق | إِنْدِمَاجٌ نَوَوِيٌّ |
| Be send | بھیجا جانا | أُرْسَلَ يُرْسَلُ إِرْسَالًا |
| American space shuttle | امریکی خلائی جہاز/شسل | الْمَرْكَبَةُ الفَضَائِيَّةُ الْأَمْرِيَكِيَّةُ |
| Discovery | دریافت | إِسْتِكْشَافٌ |
| Indian space mission | ہندوستانی خلائی مہم | مُهِمَّةُ فَضَائِيَّةٍ هِنْدِيَّةً |
| Carry | انجام دینا | قَامَ يَقُومُ قِيَامًا (بـ) |
| Indian Space Research Organisation | ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارہ | الْمُنَظَّمَةُ الْهِنْدِيَّةُ لِبُحُوثِ الفَضَاءِ |
| Target | نشانہ | هَدْفٌ ج: أَهْدَافٌ |
| Satellite | مصنوعی سیارہ | قَمَرٌ صِنَاعِيٌّ |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Test, experiment | تجربہ کرنا | تَجْرِيْبٌ |
| Launch | داغنا | إِطْلَاقٌ |
| Intend, imply | مراد لینا | عَنِيْ يَعْنِي عَنِيْا |
| Reach | پہنچنا | بَلَغَ يَبْلُغُ بُلُوغًا |
| Budget | تخيّبہ | مِيزَانِيَّةٌ |
| Million | وں لاکھ | مِلْيُونٌ |
| Experiments | تجربے | تَجَارِبٌ وَ تَجْرِيْبَةٌ |
| Operation, process | مرحلہ وار افعال / اعمال | عَمَلِيَّاتٌ |
| Study, research, explore | تحقیق، تلاش | بَحْثٌ ج: بُحُوثٌ |
| Metals | دھاتیں | مَعَادِنٌ وَ مَعْدَنٌ |
| Substances, matter | ماڈے | مَوَادٌ وَ مَادَّةٌ |
| Chemical | کیمیائی | كِيمِيائِيَّةٌ |
| Pass | گز رنا | مُرُورٌ |
| Carry | اٹھانا | حَمَلَ يَحْمِلُ حَمْلًا |
| Pride of nation | قوم / ملک کے لیے باعثِ افتخار | فَخْرُ الْأُمَّةِ |
| Hopes | امیدیں | تَطْلُعَاتٌ |
| Effort | کوشش | مُحاوَلَةٌ |
| Transfer, transmit | پہنچانا | أُوْصَلَ يُؤْصِلُ إِيْصَالًا |
| United States of America | ریاست ہائے متحده (امریکہ) | الْأَوْلَيَاْتُ الْمُتَّحِدَةُ |
| Comprise | پر مشتمل ہونا | إِشْتَمِلَ يَشْتَمِلُ إِشْتِمَالًا (علی) |
| Rocket | راکٹ | صَارُوخٌ ج: صَوَارِيخٌ |
| Named | موسوم | الْمُسَمُّى |

| | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Lander | ليندر | مسَابِرُ ج: مَسَابِرُ |
| Be titled | لقب دیا جانا | لُقْبٌ يُلَقَّبُ تَلْقِيْبًا |
| Rover | گھومنے والی گاڑی | الْمَرْكَبَةُ الْجَوَالَةُ |
| Be named | نام رکھا جانا | سُمِّيَ يُسَمِّي تَسْمِيَةً |
| Be unique | متماز ہونا | تَمَيَّزٌ يَتَمَيَّزُ تَمَيِّزًا |
| Expense, cost | خرچ، لاگت | كُلْفَةٌ |
| To cost | خرچ آنا | كُلْفَ يُكَلِّفُ تَكْلِيفًا |
| Development, leap | ترقی، چھلانگ | قَفْزَةٌ |
| Technology | ٹکنالوجی | الْتِكْنُولُوْجِيَا |
| Discovery | ایجاد | الْأَخْتِرَاعُ |
| Mention worthy | قابل ذکر | جَدِيْرٌ بِالذِّكْرِ |
| Select | چُنْنا، منتخب کرنا | إِنتَخَابٌ يَنْتَخِبُ اِنتِخَابًا |
| Physicist | سائنس دار | عَالِمٌ طَبِيعِيٌّ |
| Experienced | تجربہ کار | ذُو خُبُرَةٍ |



۱. إِمَالَةُ الْفَرَاعِ بالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ مِمَّا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ.
قوسین میں درج الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر سمجھے۔

Fill in the blanks with appropriate words given in the bracket.

۱. عِلْمُ الْفَلَكِ مِنْ التَّيْ أَكْتَشَفَهَا الْإِنْسَانُ.
۲. الْيَوْمُ أَصْبَحَ مَرْكَزَ التَّنَافِسِ.
۳. لِأَنَّهُ تُوْجَدُ بِهِ مِنَ الْمَوَارِدِ الْفَرِيدَةِ.
۴. فِي عَامِ أُرْسَلَتِ الْمَرْكَبَةُ الصَّاصَائِيَّةُ الْأَمْرِيْكِيَّةُ (۱۹۶۹ م. ، ۱۹۶۸ م.).
۵. قَامَتْ شَانْدَرَائِيَان - ۱ بِتَجَارِبٍ وَعَمَلَيَاتٍ لِلبحْثِ عَنِ (الْمِيَاهُ وَالْمَعَادِنُ ، وَقُوَّدٌ نَظِيفٌ)


Complete the following activities.

٢. أكمل النشاطات التالية. درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔

١. اكتب اسم 'إسرو' في اللغة العربية.
٢. اكتب تاريخ إطلاق شاندرايان - ١.
٣. اكتب تاريخ إطلاق شاندرايان - ٢.
٤. اذكّر اسم العالم الطبيعي الذي انتخب من مهاراشترا.

Complete the following webs.

٣. أكمل الشبكات التالية. درج ذيل شبکی خاکے مکمل کیجیے۔



٤. اكتب على المهمة الفضائية في لغتك.

خلاقی ہم کے بارے میں اپنی زبان میں اظہار خیال کیجیے۔

Match the following.

جوڑیاں لگائیے۔

٥. صِلِ الْعَمُودَيْنِ.

| العمود الثاني | العمود الأول |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| ثَمَانِينَ مِلْيُونَ دُولَارٍ | الْهِلِيُومُ - ٣ |
| سَتِيشِنْ دُهْوَانٍ | شَاندَرَايَان - ١ |
| وَقْوُدٌ نَظِيفٌ | شَاندَرَايَان - ٢ |
| سَرِيْ هَارِيْ كُوتَا | مِيزَانِيَّةٌ شَاندَرَايَان - ٢ |
| مِائَةٌ وَأَرْبَعِينَ مِلْيُونَ دُولَارٍ | مِيزَانِيَّةٌ شَاندَرَايَان - ١ |

٦. اكتب مقالةً عربيةً مشتملةً على عشر جملٍ على الأقلٍ حول أحد الموضوعين التاليين.

درج ذيل کسی ایک عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on any one of the following topic.

١. الْحَاسُوبُ ٢. الْجَوَالُ

علم الفلك (فلكلات - Astronomy)



شاندرایان - ۲


Chandrayaan - 2 - چندریان

المسبار
Lander - Vikram
أَمْارَنَ وَالا

المركبة الجواله
Rover - Pragyan
روور

الصاروخ الهندي

ہندوستانی راکٹ Indian Rocket




المنظار الفلكي
دوربين
Telescope

نظرة في بناء شاندرایان

چندریان کی تعمیر کی ایک جھلک The making of Chandrayaan



المجرة
کہکشاں
Galaxy



قمر صناعي
سیٹلائٹ
Satellite

النظام الشمسي
شمسي نظام
Solar System

قِسْمُ النَّظُمِ

١

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى

لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا نَسْتَلِدُ بِهِ ذِكْرًا
وَإِنْ كُنْتُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً وَلَا شُكْرًا

لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا طَيِّبًا يَمْلأُ السَّمَاءَ
وَأَفْطَارَهَا وَالْأَرْضَ وَالْبَرَّ وَالْبَحْرَا

لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا سَرْمَدِيًّا مُبَارَكًا
يَقِلُّ مِدَادُ الْبَحْرِ عَنْ كَتْبِهِ حَصْرًا

لَكَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى لَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَى
لَكَ الْحَمْدُ مَقْرُونًا بِشُكْرِكَ دَائِمًا

لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا طَيِّبًا أَنْتَ أَهْلُ
عَلَى كُلِّ حَالٍ يَشْمَلُ السِّرَّ وَالْجَهْرَا

لَكَ الْحَمْدُ مَوْصُوفًا بِغَيْرِ نِهايَةٍ
وَأَنْتَ إِلَهِي مَا أَحَقُّ وَمَا أَحْرَى

لَكَ الْحَمْدُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً عَلَى
لَطَائِفَ مَا أَحْلَى لَدِينَا وَمَا أَحْرَى




خلاصہ

اس نظم میں شاعر اللہ کی تعریف و توصیف پیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تیرے ذکر سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں۔ تیری شناور شکر کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ تیرے لیے ایسی پاک تعریفیں ہیں جو آسمان و زمین اور خشک و تر کو بھردے۔ تیری تعریفیں دائمی ہیں اور برکت دائمی ہیں۔ سمندر جتنی روشنائی بھی تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ! تمام تعریف اور شکر تیرے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ظاہر و باطن ہر حال میں تو ہی ان کا مستحق ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمام تعریفیں تجھی سے منسوب ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اے اللہ تو میرا معبود ہے، سچا ہے اور تعریف کے لا اتھ ہے۔ تیرے لیے کئی گناہ مدد ہے تیری ان مہربانیوں پر جو بہت ہی میٹھی اور بہترین ہیں۔

| Savour, enjoy | لذت / سرور حاصل کرنا | إِسْتَلَدَ يَسْتَلِدُ إِسْتَلَدَاً |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Cover | احاطہ کرنا | أَحْصِي يُحْصِي إِحْصَاءً |
| Fill | بھرنا | مَلَّا يَمْلَأ مَلَأً |
| Surroundings | کنارے | أَقْطَارٌ وَ قُطْرٌ |
| Everlasting | دائی | سَرْمَدِيٌّ |
| Be insufficient | کم ہونا | قَلَّ يَقِلُّ قِلَّةً |
| Ink | روشنائی | مِدَادٌ |
| Writing | لکھنا | كَتْبٌ |
| Cover | احاطہ | حَضْرٌ |
| Including | بِشُمول | مَقْرُونٌ |
| World | مراد دنیا | الْأُولَى |
| Hereafter | مراد آخترت | الْآخْرَى |
| Be a part | شامل ہونا | شَمِيلَ يَشْمَلُ شُمُولًا |
| Openly | علانیہ | جَهْرٌ |
| Worthier | زيادہ لائق | أَحْزَى (اسم تفضیل) |
| Multiple | کئی گنا | أَضْعَافٌ / مُضَاعَفَةً |
| Favours | مهر بانیاں | لَطَائِفٌ وَ لَطِيفَةً |
| More sweet | زيادہ میٹھا، زیادہ خوشگوار | أَحْلَى (اسم تفضیل) |
| For us | ہمارے نزدیک | لَدِينَا |

مشق
الْتَّمْرِينُ

Complete the following webs.



Complete the following couplets.

درج ذيل اشعار مكمل بتجهيز.

- لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا طَيْبًا يَمْلأُ السَّمَاءَ
- عَلَى كُلِّ حَالٍ يَشْمَلُ السِّرَّ وَ الْجَهْرَا
- لَكَ الْحَمْدُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً عَلَى إِمْلَا الفَرَاغِ بِالْكَلِمَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْمَصَارِيفِ.

Fill in the blanks with words from the stanzas.

مصرعوں میں درج الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر بتجهيز۔

- لَكَ الْحَمْدُ دَائِمًا
- لَكَ الْحَمْدُ قَائِمًا
- لَكَ الْحَمْدُ بِغَيْرِ نِهايَةٍ
- لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مُبَارَّكًا

Match the following.

جوڑیاں لگائیے۔

صلِ العمودینِ.

| الْعَمُودُ الثَّانِي | الْعَمُودُ الْأَوَّلُ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَ الْبَرُّ وَ الْبَحْرَا لَدِينَا وَ مَا أَخْرَى ثَنَاءً وَ لَا شُكْرًا السِّرَّ وَ الْجَهْرَا | وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَخْصِي وَ أَقْطَارَهَا وَ الْأَرْضَ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَشْمَلُ لَطَائِفَ مَا أَحْلَى |




٥. أَكْتُبْ أَضْدَادَ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ۔ درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔

شُكْرٌ ، الْأَرْضُ ، الْبَرُّ ، الْأُولَى ، الْسِّرُّ ، نِهَايَةٌ

٦. أَكْتُبْ كَلِمَاتٍ مُتَشَابِهَةٍ فِي الْوَزْنِ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنَ النَّظَمِ۔

درج ذیل الفاظ کے ہم وزن الفاظ نظم سے لکھیے۔

Write rhyming words of the given words from the poem.



٧. شَكَلِ الْمُصْرَاغِيْنِ التَّالِيَيْنِ۔

درج ذیل مصراعوں پر حرکات لگائیے۔

١. لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا سَرْمَدِيَا مَبَارِكًا

٢. عَلَى كُلِّ حَالٍ يَشْمَلُ السَّرُّ وَ الْجَهْرَا



فِي مَدْحِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ ﷺ

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| مُحَمَّدٌ أَشْرَفُ الْأَعْرَابِ وَالْعَجَمِ | مُحَمَّدٌ خَيْرُ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدْمِ |
| مُحَمَّدٌ بَاسِطُ الْمَعْرُوفِ جَامِعُهُ | مُحَمَّدٌ صَاحِبُ الْإِحْسَانِ وَالْكَرَمِ |
| مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسُلِ اللَّهِ قَاطِبَةُ | مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ |
| مُحَمَّدٌ ثَابِثُ الْمِيَاثِقِ حَافِظُهُ | مُحَمَّدٌ طَيِّبُ الْأَخْلَاقِ وَالشَّيْءِ |
| مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا | مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ |
| مُحَمَّدٌ طَابَتِ الدُّنْيَا بِبِعْثَتِهِ | مُحَمَّدٌ جَاءَ بِالآيَاتِ وَالْحِكْمِ |
| مُحَمَّدٌ يَوْمَ بَعْثِ النَّاسِ شَافِعُنَا | مُحَمَّدٌ نُورُهُ الْهَادِيُّ مِنَ الظُّلْمِ |

شاعر اس نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ عرب و عجم میں سب سے زیادہ شریف اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہیں۔ آپ بھلائیوں کو اکٹھا کرنے اور پھیلانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ کرم و احسان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ تمام رسولوں کے سردار اور قول و کلام میں سچے ہیں۔ آپ عہدو پیمان پورا کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہیں۔ آپ کا ذکر جسم کے لیے روح اور آپ کی احسان مندی امت پر فرض ہے۔ آپ کی بعثت سے دنیا خوشگوار ہو گئی۔ آپ بے شمار حکمت اور نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آپ ظلمت و گمراہی سے نکال کر نور و ہدایت کی طرف لے جانے والے ہیں۔

Glossary القَوْلُ وَ الْمَعَانِي الْكَلِمَاتُ وَ الْمَعَانِي

| | | |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| Nobler | زیادہ عزت اور شرف والا | أَشْرَفُ (اسم تفضیل) |
| Arab | عرب قوم | أَعْرَابُ |
| Non-Arab | عرب کی ضد | عَجَمُ و : عَجَمِيٌّ |
| Walk | چلنا | مَشَى يَمْشِي مَشْيًا |
| Expander | پھیلانے والا | بَاسِطُ |
| Good deed | نیکی | الْمَعْرُوفُ |
| All | سب کے سب | قَاطِبَةُ |
| Firm | ثابت رہنے والا | ثَابِثُ |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Promise | عہد و پیمان | مِيُثاقٌ ج: مَوَاثِيقُ |
| Of good morals | اچھے اخلاق وala | طِبِّ الْأَخْلَاقِ |
| Conducts | خُصَالٍ، عادِيٍن | شِيمٌ و: شِيمَةٌ |
| Commencement of messengerhood | بھیجا جانا، رسالت | بِعْثَةٌ |
| Come | آنا | جَاءَ يَجِيئُ مَجِيئَةٌ |
| Day of Resurrection | لُوگوں کو اٹھائے جانے کا دن (یوم قیامت) | يَوْمَ بُعْثَتِ النَّاسِ |
| Recommender | سفرارش کرنے والا | شَافِعٌ ج: شُفَعَاءُ |



Complete the following couplets.

مُحَمَّدٌ خَيْرٌ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدْمِ

.....


مُحَمَّدٌ جَاءَ بِالْآيَاتِ وَ الْحِكْمِ

۱. أَكْمَلِ الْأَبْيَاتِ التَّالِيَةً. درج ذيل اشعار معلم كجيء۔

۲. مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِّأَنفُسِنَا

۳. مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِّأَنفُسِنَا

Complete the following web.



۴. أَكْتُبْ أَمْثَلَةَ حَرْفِ الْعَطْفِ مِنَ الْمَدْحِ.

نعت سے حرف عطف کی مثالیں لکھیے۔

Write examples of حرف العطف from the Naat.

مِثَالٌ : الْأَغْرَابِ وَ الْعَجَمِ

۱. الْأَخْلَاقِ ۲. الْأَقْوَالِ ۳. الْأَحْسَانِ

..... ۱. الْأَقْوَالِ ۲. الْأَلْيَاتِ ۳. الْإِحْسَانِ

Complete the following activities.

٢. أكمل النشاطات التالية. درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔

١. أكتب من هو أشرف الأعراب والعجم.

٢. يأي شيء جاء محمد ﷺ؟

٣. أكتب بعض صفات النبي ﷺ.

٤. أكتب المفرد للجمع والجمع للمفرد مما يلي.

مندرج ذيل واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔

رسول ، قول ، امم ، آیات ، شیم ، نفس ، حکمة ، تیجان۔

Put vowel signs on the following words.

٥. شکل الكلمات التالية. درج ذيل الفاظ پر حرکات لگائیے۔

المعروف ، ببعشه ، الناس ، نورہ ، فرض

حَلَ اللُّغْزُ الْأَتِيَ.


درج ذيل معامل کیجیے۔

الإشارة:

اوپر سے نیچے: سچے کی عربی

دائیں سے بائیں: ذکر کا اسم فاعل

Complete the crossword.



الْقَمَرُ

هَذِهِ الْأَرْضَ بَهْجَةً وَ سُرُورًا
 سَهْلٌ أَيْضًا كَمَا انْرَتَ الْبُحُورًا
 فَتَرَانَا نَعْدُ فِيكَ الشُّهُورًا
 بَعْدَ حِينٍ مِنَ الزَّمَانِ عُصُورًا
 مُنْحَنٌ نَاحِلٌ صَغِيرٌ كَثِيرًا
 كُلَّ يَوْمٍ وَ أَنْتَ تَزْدَادُ نُورًا
 كَمَا أَنْتَ كَامِلًا مُسْتَدِيرًا
 قَدْ وَجَدْنَا خَيْرَ الْعِبَادِ شَكُورًا
 يَا أَيُّهَا الْبَدْرُ أَرْسِلِ النُّورَ وَ امْلَأْ
 أَنِيرِ الْفَابَ وَ الْجِبَالَ وَ هَذَا إِلَ
 كُلُّ شَهْرٍ تَبْدُو عَلَيْنَا جَدِيدًا
 وَ تَصِيرُ الشُّهُورُ عَامًا وَ تُمْسِيْ
 أَنْتَ فِي أَوَّلِ الشُّهُورِ هَلَالٌ
 ثُمَّ تَحْبُو لِلَّتِيمَ شَيْئًا فَشَيْئًا
 فَإِذَا مَرَّ نِصْفُ شَهْرٍ نَرَا
 فَاشْكُرِ الشَّمْسَ شُكْرًا لَكَ إِنَّا



خلاصة

اس نظم میں شاعر پورے مہینے میں چاند کی مختلف شکلوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بد رکا مل! اپنی روشنی بھی جوز میں کو پُررونق اور مسرت بخش بنادے۔ اے چاند! تو جنگل، پہاڑ اور زمین کو بھی روشن کر دے جیسا کہ تو نے دریاؤں کو روشن کیا ہے۔ ہر مہینے تو ہم پر نیا بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ ہم مہینوں کا شمار تیرے ذریعے کرتے ہیں۔ مہینے سال بنا جاتے ہیں اور سال صدیاں بنا جاتی ہیں۔ تو مہینے کے شروع میں ہلال ہوتا ہے، خمار، باریک اور بہت چھوٹا۔ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور تیرا نور دن بہ دن زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو گول اور مکمل دکھائی دیتا ہے۔ آخر میں شاعر چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو سورج کا شکر یہ ادا کر جیسا کہ ہم تیرا شکر یہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے نیک بندوں کو بہت شکر گز ارپایا ہے۔

| | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Full moon | كُمْلَةٌ چاند، چو دھویں کا چاند | الْبَدْرُ |
| Attraction | رُونق | بَهْجَةٌ |
| To light | روشن کرنا | أَنَارَ يُنِيرُ إِنَارَةً |
| Jungles, forests | جِنَّةٌ، جَهَارٌ يَابَانٌ | غَابٌ وَ: غَابَةٌ |
| Mountains | پہاڑ (جمع) | جِبَالٌ وَ: جَبَلٌ |
| Appear | ظَاهِرٌ ہونا | بَدَا يَبْدُو بُدُّوا |
| Count | شمار کرنا | عَدَ يَعْدُ عَدًا |
| Become | ہو جانا | صَارَ يَصِيرُ صَيْرُورَةً |
| Become | ہو جانا، بننا | أَمْسَى يُمْسِي إِمْسَاءً |
| Time | وقت | حِينٌ ج: أَحْيَانٌ |
| Age, period | زمانہ | عُصُورٌ وَ: عَصْرٌ |
| Crescent, new moon | نیا چاند | هِلَالٌ ج: أَهْلَةٌ |
| Curved | جھکا ہوا، خمار | مُنْحَنٍ |
| Thin | باریک، دُبلا | نَاحِلٌ |
| Be close | قریب ہونا | حَبَا يَحْبُبُ حَبُّوا |
| Completion | تکمیل | تَمَّ |
| Little little | تھوڑا تھوڑا | شَيْئًا فَشَيْئًا |
| Round | گول | مُسْتَدِيرٌ |
| Thank | شکر یاد کرنا | شَكَرَ يَشْكُرُ شُكْرًا |
| Acquire, find | پانا | وَجَدَ يَجِدُ وَجْدًا |
| Very grateful | بہت شکر کرنے والا | شَكُورٌ |

مشق

الْتَّمْرِينُ

Complete the following activities.

١. أكمل النشاطات التالية. درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔

١. من أنا راغب والجبال؟
 ٢. أكتب ما قال الشاعر للبدر.
 ٣. أكتب صفات الهلال.
 ٤. أكتب ما قال الشاعر عن الشجر.
٢. أكمل الأبيات التالية. درج ذيل اشعار مکمل کیجیے۔
١. يا أيها البدر أرسل النور و املاً
 ٢. فترانا نعد فيك الشهورا
 ٣. إملا الفراع بالكلمة المناسبة من العمود. ستون میں درج مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔

Complete the following couplets.

.....
فترانا نعد فيك الشهورا

١. أكمل الأبيات التالية. درج ذيل اشعار مکمل کیجیے۔

٢.
يا ايها البدر ارسل النور و املاً

٣.
إملا الفراع بالكلمة المناسبة من العمود.
ستون میں درج مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔


Fill in the blanks with appropriate words given in the column.

| |
|-------------|
| نُورًا |
| شَكُورًا |
| الشُّهُورًا |
| سُرُورًا |

١. هذه الأرض بهجة و
٢. فترانا نعد فيك
٣. كل يوم و أنت تزداد
٤. قد وجدنا خير الع Vad

Complete the following web.


٣. أكمل الشبكة التالية. درج ذيل خاک مکمل کیجیے۔



٥. حلّ اللُّغَزِيْنِ التَّالِيْيْنِ.


Complete the crosswords.

درج ذيل معه حلٍ كيچيے۔



١. الْإِشَارَةُ:

اوپر سے نیچے: جَبَلٌ کی جمع
دائیں سے بائیں: عَبْدٌ کی جمع



٢. اوپر سے نیچے: كَثِيرٌ کی ضدر
دائیں سے بائیں: كَبِيرٌ کی ضدر

Match the following.

جوڑیاں لگائیے۔

٦. صِلْ الْعَمُودَيْنِ.

| الْعَمُودُ الثَّانِي | الْعَمُودُ الْأَوَّلُ |
|----------------------|-----------------------|
| مُسْتَدِيرًا | بَهْجَةً |
| سُرُورًا | كَامِلاً |
| شُكُورًا | تَزَادَادً |
| نُورًا | الْعِبَادُ |

٧. مَيِّزْ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَ النَّكَرَةِ فِيمَا يَأْتِي.

Write indefinite and definite nouns separately.

نکره اور معرفہ الگ کر کے لکھیے۔

بَذْرٌ ، نُورٌ ، الْغَابُ ، الْجِبَالُ ، بَحْرٌ ، الشَّهْرُ ، يَوْمٌ ، الْعَبْدُ

٨. أَكْتُبِ الْمُفَرَّدَاتِ لِلْجَمْعِ التَّالِيَةِ.

Write singulars of the following plurals.

درج ذيل جمع کے واحد لکھیے۔

غَابٌ ، الْجِبَالُ ، الْبَحْرُ ، شَهْرٌ ، عَصُورٌ ، عِبَادٌ

٩. أَكْتُبْ مَقَالَةً عَرَبِيًّا مُشْتَمَلَةً عَلَى عَشْرِ جُمِلٍ عَلَى الْأَقْلَى حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ.

درج ذيل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”الشَّمْسُ“

الْعِلْمُ زَيْنٌ

فَاطْلُبْ هُدِيَّتْ فُنُونَ الْعِلْمِ وَ الْأَدَبَ
كَانُوا الرُّؤُوسَ فَامْسَى بَعْدَهُمْ ذَنَبَا
نَالَ الْمَعَالِيٰ بِالْأَدَابِ وَ الرُّتْبَا
نِعْمَ الْقَرِينُ إِذَا مَا صَاحَبَ صَحِبَا
عَمَّا قَلِيلٍ فَيُلْقَى الذُّلُّ وَ الْخَرَبَا
وَ لَا يُحَاذِرُ مِنْهُ الْفَوْتَ وَ السَّلَبَا
لَا تَعْدَلَنَّ بِهِ دُرًّا وَ لَا ذَهَبَا

الْعِلْمُ زَيْنٌ وَ تَشْرِيفٌ لِصَاحِبِهِ
كَمْ سَيِّدٌ بَطَلٌ أَبَاءُهُ نُجُبٌ
وَ مُقْرِفٌ خَامِلٌ الْأَبَاءُ ذِي أَدَبٍ
الْعِلْمُ كَنْزٌ وَ ذُخْرٌ لَا فَنَاءَ لَهُ
قَدْ يَجْمَعُ الْمَالَ شَخْصٌ ثُمَّ يُحَرِّمُهُ
وَ جَامِعُ الْعِلْمِ مَغْبُوطٌ بِهِ أَبَدًا
يَا جَامِعَ الْعِلْمِ نِعْمَ الدُّخْرُ تَجْمَعُهُ

خلاصہ
مذکورہ نظم میں شاعر نے علم کی اہمیت کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ علم زینت ہے اور علم والے کے لیے شرافت و بزرگی ہے۔ چنانچہ علم و ادب کے تمام فنون کو حاصل کرو۔ کتنے ایسے لوگ جو حاکم و بہادر تھے جن کے آبا و اجداد سردار تھے لیکن ان کے بعد وہ مخلوم بن گئے۔ بہت سے بد صورت جن کے آبا و اجداد گمنام تھے انہوں نے علم و ادب کے ذریعے بلندیوں اور اعلیٰ مراتب کو پایا۔

علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر مزید کہتا ہے کہ علم ایک خزانہ اور ذخیرہ ہے جو کسی فنا نہیں ہوتا اور علم کیا ہی اچھا ساختی ہے جو ساختہ نہیں چھوڑتا۔ مال جمع کرنے والا شخص جب اس سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتا ہے اور علم کا جمع کرنے والا ہمیشہ قابلِ رشک ہوتا ہے۔ اسے علم کے چھن جانے اور گم ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے علم جمع کرنے والے! یقیناً تو نے بہترین ذخیرہ جمع کیا۔ چنانچہ موتی اور سونے سے اس کی برابری نہ کر۔

Glossary الفاظ و معانی الْكَلِمَاتُ وَ الْمَعَانِي

| | | |
|------------|-----------------|-----------------------------|
| Decor | زینت، آرائش | زَيْنٌ |
| Honour | شرف و عزّت | تَشْرِيفٌ |
| Desire | طلب کرنا، چاہنا | طَلَبٌ يَطْلُبُ طَلَبًا |
| Be guided | ہدایت پانा | هُدَىٰ يُهَدِى هِدَائِيَّةً |
| Many a ... | کتنے ہی | كَمْ (خبریہ) |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Head | سردار | سَيِّدٌ ج: سَادَةٌ |
| Hero | بہادر، ہیرو | بَطَلٌ ج: أَبْطَالٌ |
| Ancestors | باپ دادا | أَبَاءُ و: أَبٌ |
| Noblemen | شرفا | نُجُبٌ و: نَجِيبٌ |
| Leader | سردار، سر | رُؤُسُ و: رَأْسٌ |
| Subject, tail | مکوم، دُم | ذَنَبٌ |
| Ugly | بد صورت | مُقْرِفٌ |
| Whose ancestors are unknown | جس کے باپ دادا گمانام ہوں | خَامِلُ الْأَبَاءِ |
| Person of good morals | ادب والا | ذُو أَدَبٍ |
| Earn, gain | پانا، حاصل کرنا | نَالَ يَنَالُ نَيْلًا |
| Heights | بلندیاں | الْمَعَالِي و: الْمُعَلَّةُ |
| Standards, values | راتب، مرتب | رُتبٌ و: رُتْبَةٌ |
| Treasure | خزانہ | كَنْزٌ ج: كُنُوزٌ |
| Deposits | ذخیرہ | ذُخْرٌ ج: ذَخَائِرٌ |
| Destruction, wipeout | فنا | فَنَاءٌ |
| Good | کیا ہی اچھا ہے | نِعَمٌ (فعل مرح) |
| Colleague, fellow | ساتھی | قَرِيْنٌ ج: قُرَنَاءُ |
| Stay together | صحبت اختیار کرنا، ساتھ رہنا | صَاحَبَ يُصَاحِبُ مُصَاحَّةً |
| Stick together | ساتھی ہونا | صَاحَبَ يُصَاحِبُ صُحْبَةً |
| Collect | جمع کرنا | جَمَعَ يَجْمَعُ جَمْعًا |
| Be deprived | محروم ہونا | حُرِمَ يُحْرَمُ حِرْمَانًا |
| In a few moments | کچھ ہی دیر میں | عَمَّا قَلِيلٍ |
| Meet | ملنا، پانا | لَقِيَ يَلْقَى لِقاءً |

| | | |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Humiliation | ذلت | ذل |
| Destruction | بربادی | خرب |
| Enviable, desirable | قابلِ رشک | مَغْبُوطٌ |
| Always | ہمیشہ | أَبْدُ |
| Take precaution | محتاط رہنا، ڈرنا | حَادَرٌ يُحَادِرُ مُحَادَرَةً |
| Loose | چھوٹ جانا | فَوْتٌ |
| Snatch | چھن جانا، چھیننا | سَلْبٌ |
| Equate, compare | برا برا کرنا | عَدْلٌ يَعْدِلُ عَدْلًا |
| Don't compare | ہرگز برابر مت سمجھ | لَا تَعْدِلَنَّ (فعل نبی تاکید بانوں نے قیلے) |
| Pearls | موتی (جمع) | دُرٌ وَ دُرَّةً |
| Gold | سونا | ذَهَبٌ |



۱. إِمَلَأُ الْفَرَاغِ بِالْكَلِمَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْأَيَّاتِ.

Fill in the blanks with words from the couplets.

اشعار میں درج الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کبھی۔

۱. كَمْ سَيِّدِ بَطْلِ أَبَاءُ
۲. كَانُوا الرُّؤُوسَ فَامْسَى بَعْدَهُمْ
۳. وَ مُقْرِفٍ خَامِلِ الْأَبَاءِ
۴. وَ جَامِعُ الْعِلْمِ مَغْبُوطٌ بِهِ
۵. لَا تَعْدِلَنَّ بِهِ دُرًّا وَ لَا

Complete the following webs.

درج ذیل خاکے مکمل کیجیے۔

۲. أَكْمِلِ الشَّبَكَاتِ التَّالِيَةَ.

| | | | |
|------------------|--|-----------|-----|
| | | الْعِلْمُ | . ۱ |
| لِصَاحِبِهِ | | | |
| لَا فَنَاءَ لَهُ | | الْعِلْمُ | |



٣. ترجم الأبيات التالية.
Translate the following couplets.


١. قد يجمع المال شخص ثم يحرمه
عما قليل فيلقى الذل والخرابا
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه
لا تعدلن به درا ولا ذهبا

٤. أكمل النشاطات التالية.
Complete the following activities.

١. أكتب ما هو زين و تشريف لصاحبه.
٢. أكتب من يلقى الذل والخراب.
٣. ما هو العلم؟
٤. أكتب من هو مغبوط أبداً.

٥. حل اللغز الآتي.
Complete the crossword.

درج ذيل معهد حل يكفي.



الإشارة:

اوپر سے نیچے: جمیع کا فعل مضارع
دائیں سے بائیں: علم کی جمع

٦. أكتب الجموع للمفردات التالية.
درج ذيل واحد کی جمع لکھیے۔


آب ، فن ، أدب ، کنز ، بطل ، شریف

Write plurals of the following words.

٧. شكل هذا البيت. درج ذيل شعر بحركات لگائے۔

العلم كنز و ذخر لا فناء له
نعم القرین اذا ما صاحب صاحبا

Put vowel signs on the following couplet.



الْجَدَّةُ

أَحْنَى عَلَيَّ مِنْ أَبِي
تَذَهَّبُ فِيهِ مَذْهَبٌ
يَكُلُّهُمْ لَمْ تَغْضِبِ
مِشِيشَةُ الْمُؤَدِّبِ
وَإِنْ لَمْ يَضْرِبِ
غَضْبَانَ قَدْ هَدَدَ بِالضَّرْبِ
فَلَمْ أَجِدْ لِي مِنْهُ
فَجَعَلَتُنِي خَلْفَهَا
وَهِيَ تَقُولُ لِأَبِي
ذَا الْوَلَدِ الْمُعَذَّبِ
الَّمْ تَكُنْ تَصْنَعُ مَا
يَصْنَعُ إِذَا أَنْتَ صَبِيًّا؟

لِي جَدَّةُ تَرَافُ بِي
وَكُلُّ شَيْءٍ سَرَّنِي
إِنْ غَضِبَ الْأَهْلُ عَلَى
مَشِيشَى أَبِي يَوْمًا إِلَيَّ
غَضْبَانَ قَدْ هَدَدَ بِالضَّرْبِ
فَلَمْ أَجِدْ لِي مِنْهُ
فَجَعَلَتُنِي خَلْفَهَا
وَهِيَ تَقُولُ لِأَبِي
وَيْحَ لَهُ! وَيْحَ لَهُ



خلاصہ میری دادی، مجھ پر میرے والد سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ میری ہر پسندیدہ بات میں میری موافق تکرتی ہیں۔ جب سارے گھروالے مجھ پر غصہ کرتے ہیں تو بھی وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتیں۔ ایک دن میرے والد مجھے ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے آئے تو مجھے دادی کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ملی۔ انہوں نے مجھے جلدی سے اپنے پیچھے چھپا لیا اور والد سے کہنے لگیں ”کیوں بچ کو پریشان کرتے ہو؟ تم بھی بچپن میں ایسا ہی کرتے تھے۔“

Glossary

الْفَاظُ وَالْمَعَانِي

الْكَلِمَاتُ وَالْمَعَانِي

| | | |
|---------------|-------------|-------------------------|
| Grandmother | دادی | جَدَّةُ ح: جَدَّاتُ |
| Be kind | نرمی برنا | رَأَفَ يَرَأْفُ رَأْفًا |
| More kind | زیادہ شفیق | أَحْنَى (اسمِ تفضیل) |
| Make happy | خوش کرنا | سَرَّ يَسْرُّ سَرَّاً |
| Path | طريق، راستہ | مَذْهَبٌ |
| Walking style | چال | مِشِيشَةُ |

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Discipliner | ادب سکھانے والا | مُؤَذِّبٌ |
| Angry | غضب ناک | غَضْبَانُ |
| Threaten | دھمکی دینا | هَدَدَ يَهَدِّدُ تَهْدِيدًا |
| Hitting | مار | ضَرْبٌ |
| Refuge | جائے فرار، پناہ گاہ | مَهْرَبٌ |
| Behind | پچھے | خَلْفٌ |
| Gain salvation, salvage | نجات پانा، چھکارا پانا | نَجَاحٌ يَنْجُو نَجَاهًا |
| Hide | چھپنا | إِخْتِيَّيْ يَخْتَبِي إِخْتِبَاءً |
| Tone | لہجہ | لَهْجَةٌ |
| Reprimander | ڈانٹنے والا | مُؤَنِّبٌ |
| Woe unto him | افسوس | وَيْحٌ لَهُ |
| Punished | تکلیف میں بمتلا | مُعَذَّبٌ |
| Do, make | کرنا، بنانا | صَنَعٌ يَصْنَعُ صُنْعًا |
| Child | چھوٹا بچہ | صَبِيٌّ ج: صِبَيَّانٌ |



Complete the following activities.

١. أكمل النشاطات التالية. درج ذيل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔

١. أكتب صفات الجدة
٢. إذا غضب كُلُّ من في البيت ، ما تفعل الجدة؟
٣. ماذا تقول الجدة للاعب؟

Translate the following couplets.

٢. ترجم الأبيات التالية. درج ذيل اشعار کا ترجمہ لکھیے۔

١. لي جدة ترأف بي
 ٢. و كُلُّ شيء سرني
 ٣. مشي أبي يوما إلى
 ٤. الام تكون تصنع ما
- أحنى علئي من أبي
تذهب فيه مدھبی
مشية المؤدب
يصنع إذ أنت صبی؟

٣. إِمَّا لِفَرَاغٍ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ مِمَّا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ.

قوسین میں درج الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر لکھیے۔

Fill in the blanks with appropriate words given in the bracket.

(قد، أنت، جدتي، تقول)

١. غَضَبَانَ هَدَدَ بِالضَّرْبِ

٢. غَيْرَ مِنْ مَهْرَبِ

٣. وَهُنَيْ لِأَبِي

٤. يَضْنَعُ إِذْ صَبِيْ؟

٥. أَكْمِلِ الْأَبْيَاتِ التَّالِيَةَ. درج ذیل اشعار مکمل کیجیے۔

Complete the following couplets.

١. وَ كُلُّ شَيْءٍ سَرَنِيُ

٢. مِشِيَةٌ الْمُؤَدِّبِ

٣. غَضَبَانَ قَدْ هَدَدَ بِالضَّرْبِ

٤. بِلَهْجَةِ الْمُؤَنِّبِ

٥. أَكْتُبْ كَلِمَاتٍ مُتَشَابِهَةً فِي الْوَزْنِ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ مِنَ النَّظَمِ.

نظم سے درج ذیل لفظ کے ہم وزن الفاظ لکھیے۔

Write rhyming words for the following word from the poem.

أَبِي

مؤنِّبٌ

مَذْهَبٌ

تَغْضِبٌ

٦. أَكْتُبْ مَقَالَةً عَرَبِيَّةً مُشْتَمَلَةً عَلَى عَشْرِ جُمِيلٍ عَلَى الْأَقْلَى حَوْلَ الْمَوْضُوعِ التَّالِيِّ.
درج ذیل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضامون لکھیے۔


Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.



”أمِي“

رَفِيقُ الْحَمِيمٍ

٢



رَفِيقُ الرُّوحِ وَ الْقَلْبِ
أَسَائِلُ عَنْهُ فِي غَيْبٍ
لَا حَظِي مِنْهُ بِالْقُرْبِ
وَ فِي فَرْحَى وَ فِي كَرْبِي
أَرَاهُ دَائِمًا جَنِي
وَ فِي جِدِي وَ فِي لَعْنِي
يُزَامِلُنِي بِلَا تَعَبِ
إِذَا أَدْعُوهُ فِي أَمْرٍ
يُلْبِي رَاضِيَا طَلْبِي
تَصَافَيْنَا بِلَا غَضَبٍ
مِنَ الْقَلْبِ إِلَى الْقَلْبِ
وَ عِشْنَا عِيشَةَ الْحُبِ
فَلَا أَسْعَى إِلَى ذَنْبٍ

خلاصہ میرا دوست میری روح اور دل کا ساتھی ہے۔ میری تمام ترجیتیں اس پر نچھاوار ہیں۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں پوچھنا قربت کا وسیلہ ہے۔ خوشی و مسرت اور درد و غم میں وہ ہمیشہ میرے شانہ بشانہ رہتا ہے۔ اپنی محنت اور فرط میں وہ بغیر تھکے میرا ساتھ دیتا ہے۔ جب کبھی اُسے بلا تا ہوں تو وہ فوراً خوشی لبیک کہتا ہے۔ ادب و اخلاق پر ہم اکٹھے ہیں اور بغیر کسی ناراضگی کے ہم صاف دل رکھتے ہیں۔ ہم باہم پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ پس میں گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا اور نہ وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہوتا ہے۔

Glossary

الفاظ و معانی

الْكَلِمَاتُ وَ الْمَعَانِي

Friend, mate

دوست، ساتھی

رَفِيقٌ ج: رُفَقاءُ

Soul mate, relative

گھردار دوست، رشتہ دار

حَمِيمٌ ج: أَحِمَاءُ

Affection

محبت

وُدٌّ

Ask

پوچھنا

سَائِلٌ يُسَائِلُ مُسَائِلَةً

Absence

غیر موجودگی

غَيْبٌ

Gain, achieve

پانا، حاصل کرنا

حَظِيَ يَحْظَى حَظْوَةً

Happiness

خوشی

فَرْحَةً

Sadness, sorrow

دُکھ، تکلیف

كَرْبٌ

| | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| See, take care | دیکھنا، خیال رکھنا | رَأَى يَرِى رُؤْيَا |
| Alongside, beside | پہلو، قرب | جَنْبُ |
| Seriousness | سنجیدگی | جِدُّ |
| Accompany, associate | ساتھی ہونا | زَانِمَلٌ يُزَامِلُ مُزَامَلَةً |
| Respond | جواب دینا، فرمائش پوری کرنا | لَبَّى يُلَبِّي تَلْبِيَةً |
| Happily | خوشی خوشی | رَاضِيَا |
| Demand | مطلوبہ | طَلَبٌ ج: طَلَبَاتٌ |
| Befriend | آپس میں دوست ہونا | تَصَادِقَ يَتَصَادِقُ تَصَادِقًا |
| Be sincere | آپس میں مخلص ہونا | تَصَافِي يَتَصَافِي تَصَافِيَا |
| Life | زندگی | عِيشَةً |
| Try | کوشش کرنا | سَعْيٍ يَسْعِي سَعْيَا |
| Sin | گناہ | ذَنْبٌ ج: ذُنُوبٌ |
| Listen earnestly | غور سے سننا | أَصْغَى يُصْغِي إِصْغَاءً |
| Lie, untruth | جھوٹ | كِذْبٌ |



١. رَتِيبُ الأَيْيَاتِ كَمَا فِي النُّظُمِ.

مندرج ذيل اشعار/نظم کے مطابق ترتیب دیجیے۔

١. مِنَ الْقَلْبِ إِلَى الْقَلْبِ يُلَبِّي رَاضِيَا طَلَبِي
٢. تَصَادَقْنَا عَلَى الْأَدَبِ وَ عِشْنَا عِيشَةَ الْحُبِ
٣. إِذَا أَدْعُوهُ فِيْ أَمْرٍ تَصَافَيْنَا بِلَا غَضَبٍ

٢. أَكْمِلِيَ الأَيْيَاتَ التَّالِيَةَ. درج ذيل اشعار/نظم کامل تجھیز۔

١. رَفِيقُ الرُّوحِ وَ الْقَلْبِ
٢. لِأَحْظِي مِنْهُ بِالْقُرْبِ
٣. وَ فِي فَرْحَى وَ فِي كَرْبَى

٣. أكمل المضارع بالكلمات المناسبة مما بين القوسين.

قوسین میں دیے ہوئے صحیح لفظ کی مدد سے مکمل کیجیے۔

Complete the following stanzas with the help of appropriate word from the bracket.

١. وَ فِي وَ فِي كَرْبَلَى . (فَرْحَى ، سُرُورِي)

٢. وَ فِي وَ فِي لَعْبَى . (سَعْى ، جِدَّى)

٣. إِذَا أَدْعُوهُ فِي (أَمْرٍ ، فِعْلٍ)

٤. فَلَا إِلَى ذَنْبٍ . (أَمْشِى ، أَسْعَى)

٥. حَوَّلَ الْمَاضِي إِلَى الْمُضَارِعِ .

درج ذیل ماضی کو مضارع بنائیے۔


فُرُبَ ، فَرِحَ ، جَدَّ ، لَعِبَ ، تَعَبَ

٦. شَكَّلَ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَةَ .

درج ذیل الفاظ پر حرکات لگائیے۔

راضیا ، تصادقنا ، تصافينا ، غصب ، کذب

٧. حل اللَّغْزِ الْأَتْيِ . درج ذیل معہد حل کیجیے۔



اوپر سے نیچے: دوست کی عربی

دائیں سے بائیں: ساختی کی عربی

٨. تَرْجِمُ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ . درج ذیل اشعار کا ترجمہ کیجیے۔

١. رَفِيقُ الرُّوحِ وَ الْقَلْبِ لَهُ وُدِّي لَهُ حُبِّي

٢. تَصَادَقْنَا عَلَى الْأَدَبِ تَصَافَيْنَا بِلَا غَضَبٍ

٣. فَلَا أَسْعَى إِلَى ذَنْبٍ وَ لَا يُصْغِي إِلَى كِذْبٍ

٩. أَكْتُبْ مَقَالَةً عَرَبِيَّةً مُشْتَمَلَةً عَلَى عَشْرِ جُمَلٍ عَلَى الْأَقْلَلِ حَوْلَ الْمُوْضُوعِ التَّالِيِ .

درج ذیل عنوان پر عربی میں کم از کم دس جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔

Write an essay in Arabic in atleast 10 sentences on the following topic.

”صَدِيقِي“

التَّشْبِيهُ

تعريف: شعر میں جب کسی شے یا شخص کو کسی دوسری شے یا شخص کے مانند بتایا جائے اور دونوں میں بعض خصوصیات یا صفتیں کیساں ہوں تو اس صنعت کو **تشبیه** کہا جاتا ہے۔ کسی جاندار کو بے جان شے سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ مثال: **خَالِدٌ مِثْلُ الْحَاسُوبِ فِي الْحَدَّاقَةِ**۔ خالد مہارت میں کمپیوٹر کی طرح ہے۔

ارکانِ تشبیه: تشبیہ کے چار اركان ہوتے ہیں۔

۱. **مشبه:** وہ شے یا شخص جس کو تشبیہ دیں۔

۲. **مشبه بہ:** وہ شے یا شخص جس سے تشبیہ دی جائے۔

۳. **وَجْه تَشْبِيهٍ:** وہ وصف یا صفت جس میں مشبه اور مشبه بہ دونوں مشترک ہوں۔

۴. **حُرُوف تَشْبِيهٍ:** وہ حروف جن کی مدد سے مشترک وصف کو بیان کریں جیسے مثُلُ، كَ، كَانَ، كَما، كَمَثَلٍ

Simile التَّشْبِيهُ

In a poetic composition, when a person or a thing is described as similar to another person or thing and both the persons or both the things have some common characteristics then this figure of speech is called Tashbeeh (Simile). A living thing can be compared with a non-living thing and vice versa.

For example : Khalid is like computer in skill. **خَالِدٌ مِثْلُ الْحَاسُوبِ فِي الْحَدَّاقَةِ.**

Tashbeeh (Simile) has four parts.

1. Mushabbah **مشبه** : A person or thing that is compared with another person or thing.
2. Mushabbah Bihi **مشبه بہ** : A thing or person to which a thing or person is compared.
3. Wajhu Tashbihin **وَجْه تَشْبِيهٍ** : A characteristic that is common in both مشبه بہ and مشبه۔
4. Huroofut Tashbeeh **حُرُوف التَّشْبِيهِ** : The particles that help to compare the common characteristics. These particles are

مِثُلُ، كَ، كَانَ، كَما، كَمَثَلٍ

أَمْثَال التَّشْبِيهِ : (تشبیہ کی چند مثالیں) (Examples of Tashbeeh)

۱- لَرَزَقْكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ

۲- عُرَفَتْ رُفَيْدَةُ كُمْرَضَةً عَطْوَفَةً

۳- الْخَلِيلَةُ كَالْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ يَعِيشُ فِيهَا النَّحْلُ

۴- زُرْنَا حَدِيقَةَ كَسْمِيرَ كَانَهَا الْفِرْدُوسُ فِي الْجَمَالِ وَ الْبَهَاءِ.

۵- كَمْ وُجُوهٍ مِثْلُ النَّهَارِ ضِيَاءً

اَلْاِسْتِعَارَةُ

استعارة دراصل تشبیه کی ہی ایک صورت ہے۔ البتہ تشبیہ اور استعارے میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں کم از کم مشبہ اور مشبہ بہ کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے جبکہ استعارے میں حروف تشبیہ (أدۂ شبہ) اور وجہ جامع (وجه شبہ / وجہ شبہ) کے حذف کے ساتھ مستعار لہ (مشبہ) اور مستعار منه (مشبہ بہ) میں سے بھی کوئی ایک ضرور حذف ہوتا ہے۔ مثلاً: **الْحَاسُوبُ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ**۔ اس جملے میں مستعار لہ (خالد یعنی مشبہ) محذوف ہے اور مستعار منه (الحاوسوب یعنی مشبہ بہ) مذکور ہے جس سے خالد مراد ہے۔

تشبیہ کی طرح استعارے کے بھی چار ارکان ہیں۔

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ۱. مُسْتَعَارٌ مِنْهُ (تشبیہ میں مشبہ بہ) | ۲. مُسْتَعَارٌ لَهُ (تشبیہ میں مشبہ) |
| ۳. مُسْتَعَارٌ (تشبیہ میں وجہ شبہ) | ۴. وَجْهٌ جَامِعٌ (تشبیہ میں حرف تشبیہ) |

Metaphor الْاِسْتِعَارَةُ

In fact, **استعارة** (Metaphor) is like a simile (تشبیہ). However, the difference between Tashbeeh (Simile) and Istiarah (Metaphor) is the mentioning of Mushabbah (مشبہ)، Mushabbah Bihi (مشبہ بہ) and Huroof Tashbeeh (حروف التشبیہ) while in Istiarah (Istiarah)، Huruf Tashbeeh (حروف تشبیہ) and Wajhe Jame (وجه جامع) are omitted from it. Besides their omission, at least one of these two i.e. Mustaar Lahu (مشبہ/مستعار لہ) Mushabbah (مشبہ/مستعار منه) and Mustaar Minhu (مشبہ/مستعار منه) Mushabbah Bihi (مشبہ بہ) is omitted.

For example: **الْحَاسُوبُ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ**

In this sentence (i.e. مستعار منه) مشبہ/خالد (مشبہ لہ) is not mentioned and (i.e. مستعار لہ) مشبہ بہ is mentioned instead that implies خالد (مشبہ بہ)

It has four elements like that of Tashbeeh.

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Mustaar Minhu | مُسْتَعَارٌ مِنْهُ |
| 2. Mustaar Lahu | مُسْتَعَارٌ لَهُ |
| 3. Mustaar | مُسْتَعَارٌ |
| 4. Wajhun Jamiuu | وَجْهٌ جَامِعٌ |
1. مشبہ بہ in fact is مستعار منه
 2. مشبہ بہ in fact is مستعار لہ
 3. مستعار : It is that word from which figurative meaning is taken.
 4. وجہ جامع : It has the characteristic of وجہ شبہ

أَلْأَضْدَادُ وَالْمُتَرَادِفَاتُ

| الضد | الاسم | الضد | الاسم |
|-----------|--------|---------------|-----------|
| جاء / أتى | ذهب | فسد | صلح |
| المساء | الصباح | ثقيلة | خفيفة |
| طاعت | غربت | الإثم | البر |
| العلانية | السر | خائن | أمين |
| الأخرى | الأولى | بطان | خماص |
| كفر | شُكْرٌ | صحّة | مرض |
| جالس | قائم | الكافر | الصادق |
| | | باطل | حق |
| المترادف | الاسم | | |
| جائع | خماص | ضيقة | واسعة |
| فاز | نجاح | قليله | كثيرة |
| جديد | حدث | صديق | عدو |
| حياة | عيش | فشل / خاب | نـاجـحـ |
| حب | ود | جزء / بعض | كـلـ |
| صديق | رفيق | بريرية | بـحرـيـة |
| وراء | خلف | حدثنة / جديدة | قـدـيـمـة |
| طريق | مذهب | نـهاـيـة | بـداـيـة |
| صاحب | قرئـنـ | فوق | تحـتـ |
| ذنب | إثم | فناء | بقاء |
| فؤاد | قلب | موت | عيش |
| جسم | جسد | تهدم | تبني |
| بيت / دار | منزل | تفرق | تجمع |
| وجه | صورة | الرديئة | الجيـدة |
| زعيمة | قائدة | الاصحـاء | المرـضـى |
| وصل | بلغ | يبغض | يـحـبـ |
| | | نشيط | كسـلـانـ |



- पाठ्यपुस्तक मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्येतत्र प्रकाशने.
- नामवंत लेखक, कवी, विचारवंत यांच्या साहित्याचा समावेश.
- शालेय स्तरावर पूरक वाचनासाठी उपयुक्त.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेत स्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५१४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७९८४२, पनवेल - ☎ २७४८२६४६५, नाशिक - ☎ २३९९५९९, औरंगाबाद - ☎ २३३२९७९, नागपूर - ☎ २५४७७९६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५



महाराष्ट्र राजीय पाठ्यपत्रक निकाय
कर्म संशोधन मंडळ, पुणे

MAHARASHTRA STATE BUREAU OF TEXTBOOK
PRODUCTION AND CURRICULUM RESEARCH, PUNE.

हिंदायतुल अरबिया (भाग-२) (अरेबिक) इ. १२वी

₹ 102.00

